


سرفا

# قرآن حکیم کی قوتِ تسخیر

دکٹر رiaz ahmed



# قرآنِ حکیم کی قوتِ تسخیر

اظہارِ تشکر اور تحدیثِ نعمت  
پر مشتمل ایک اہم خطاب

**ڈاکٹر اسرار احمد**

مکتبہ ڈاکٹر احمد القرآن لاہور

5869501-03: فون: لاہور، ٹاؤن ڈائل کے۔

## عرض ناشر

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے صدر موسس اور تنظیم اسلامی کے امیرڈاکٹر اسرار احمد مظلہ کا یہ فکر انگیز خطاب آج سے ساڑھے چھ سال قبل ایک ایسے موقع پر ہوا جب محترم ڈاکٹر صاحب کے قائم کردہ قرآن کے انتلابی فکر پر مبنی دواداروں یعنی مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور اور تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماعات کا انعقاد حسن اتفاق سے ایک ہی تاریخوں میں تھا۔ اس خطاب کے ذریعے جہاں ان دونوں تحریکوں کے قیام کے پس منظر پر عمدگی کے ساتھ روشنی پڑتی ہے وہاں قرآن حکیم کا یہ پہلو کہ یہ کتاب اپنے اندر بے پناہ قوتِ تغیر رکھتی ہے اور فکری و علمی سطح پر عصائے موسیٰ کی طرح تمام باطل نظریات کا قلع قمع کرنے کی صلاحیت اس کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، بھی نہیں خوبصورتی کے ساتھ اجاگر ہوتا ہے۔ اب مرکزی انجمن کے ۲۶ وال سالانہ اجلاس کے موقع پر اس خطاب کو افادہ عام کیلئے کتابچے کی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔

نام کتاب	قرآن حکیم کی قوتِ تغیر
طبع اول	(اکتوبر 1998ء)
1100	
طبع دوم	(نومبر 2000ء)
2200	
طبع سوم	(اگست 2005ء)
2200	
ناشر	ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور
مقام اشاعت	36۔ کے ماذل ٹاؤن لاہور
فون:	5869501-03
طبع	شرکت پرنٹنگ پر لیس، لاہور
قیمت (اشاعت خاص)	30 روپے
قیمت (اشاعت عام)	15 روپے

## قرآن حکیم کی قوٰتِ تسبیح

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کا سالانہ اجلاسِ عام ۱/۲۰ اپریل کی شام کو منعقد ہوا اور اس سے قبل مسلسل چار دن تک تنظیم اسلامی کا سترہواں سالانہ اجتماع جاری رہا۔ یوں سمجھئے کہ تحریکِ قرآنی کے اس قافلے نے جو مرکزی انجمن خدام القرآن کے نام سے محض فرہے، اپنے زندگی کے بیس برس مکمل کر لئے۔ اسی طرح تنظیم اسلامی کی عمر بھی اب سترہ برس ہو گئی ہے۔ اس عرصے کے دوران جو خیر بھی بن آیا ظاہریات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق اور اس کی نصرت و اعانت کے طفیل ہوا، اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ احباب جانتے ہیں کہ گزشتہ ایک سال کے دوران متعدد مواقع پر میں چند خاص حقائق کے حوالے سے بعض امور پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی شکر ادا کرتا رہا ہوں۔ آج پھر میں چاہتا ہوں کہ انہیں کجا کر کے اور مرتب انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں۔

### تحریک میں تسلسل اور دوام — ایک لاکٹ شکربات

سب سے پہلا شکر ہم پر اس اعتبار سے واجب ہے کہ ہمارے اس کام میں، جس کے یہ دونمیاں تنظیمی مظہر ہیں، یعنی انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی، الحمد للہ کہ گزشتہ بیس برس سے تسلسل بھی ہے اور تو اتر بھی۔ گوہاری رفتار کوئی بہت زیادہ تیز نہیں رہی، لیکن اس میں جو تسلسل اور تو اتر کا پہلو ہے وہ میرے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ طوفان کی طرح اٹھنے والی تحریکیں بسا اوقات بہت جلد جھاگ کی ماںند بیٹھ بھی جاتی ہیں، لیکن جس کام میں تسلسل اور دوام ہو اور جو پیغم کیا

جائے اصل میں وہی پائیدار بھی ہوتا ہے اور اسی کے نتیجے میں کوئی حقیقتاً موثر اور وقیع کام سرانجام پاسکتا ہے۔ میں نے حالیہ سالانہ اجتماع کے دوران بھی اس ضمن میں دو الفاظ ایک انگریزی محاورے کے حوالے سے استعمال کئے تھے : (i) Slow اور (ii) Steady۔ ہمارے اب تک کے کام پر یہ دونوں الفاظ منطبق ہوتے ہیں۔ اس میں یقیناً ہمارے لئے اطمینان بلکہ بھارت کا بہت کچھ سامان موجود ہے اور ہمیں اس پر تمہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔

اسی طرح شکر کے لائق ایک اور بات یہ ہے کہ ہماری اس اجتماعیت میں اس بیس سال کے عرصے میں کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہوا، کوئی بڑا اختلاف رونما نہیں ہوا۔ انجمنوں اور اداروں کی زندگیوں میں بڑے بڑے طوفان آتے ہیں اور ایسے بڑے اختلافات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ادارے کی بساط تک لپیٹنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لئے کہ عام طور پر انجمنوں کا نظام بڑا ڈھیلاڈھالا ہوتا ہے، اس میں بالعموم کچھ سرکردہ شخصیتوں کا مکرا اور ہو جایا کرتا ہے اور باہم کھیچ تان عام طور پر جاری رہتی ہے جو نہایت مضر اثرات کی حامل ہوتی ہے۔ الحمد للہ، ثم الحمد للہ ہمارا یہ ادارہ اس نوع کی خرابیوں سے بالکل محفوظ رہا ہے۔ یہ قرآن اکیدی انجمن کی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز رہی ہے اور یہاں آس پاس کے رہنے والے بخوبی واقف ہیں کہ ایسا کوئی ناخوشگوار و اقدح الحمد للہ یہاں کبھی پیش نہیں آیا۔ گزشتہ بیس سال کے دوران مرکزی انجمن کے کسی بھی فنکشن میں، خواہ وہ عمومی اجلاس ہو اور خواہ مجلس منظمہ کی خصوصی میٹنگ ہو، کبھی کوئی تخفی نہیں ہوئی، کبھی کسی تو تکارکی نوبت نہیں آئی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ — شکر کے بارے میں میں نے بارہاں حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جب تک انسان کو پورا شعور حاصل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا فضل اور انعام ہوا ہے، اس وقت تک اس کے متناسب اور Proportionate شکر ادا نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اور اک اور شعور کہ مجھ پر اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کتنا عظیم فضل ہوا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جتنا یہ شعور

اور احساس گرا ہو گا جذبہ تشكیر بھی اتنی ہی گراوائی سے برآمد ہو گا اور اسی قدر قوت کے ساتھ یہ جذبہ شکر ایک چشمہ کی مانند قلب کی گریوں سے ابلے گا۔

کم و بیش اسی طرح کامعاملہ الحمد للہ تنظیم اسلامی کا بھی ہے کہ کوئی بڑا اختلاف اور انتشار وہاں بھی رونما نہیں ہوا۔ ظاہریات ہے کہ انسانوں کی جماعت میں کچھ نہ کچھ لوگوں کا اختلاف کرنا یا اکاؤ کالوگوں کا جماعت سے علیحدہ ہو جانا بالکل فطری امر ہے، کوئی بھی جماعت اس سے خالی نہیں رہی، یہاں تک کہ انبیاء کرام ﷺ کی جماعتوں میں بھی ایسے لوگ نکل آتے تھے کہ جو ساتھ چھوڑ جاتے تھے، تو تنظیم اسلامی کے اندر رہی اس طرح کے چند واقعات کا ہونا موجب حیرت یا باعث تشویش نہیں ہونا چاہئے۔ آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ میں کئی موقع ایسے آئے کہ بعض لوگ متزال ہوئے یا ساتھ چھوڑ گئے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ واقعہ معراج کے بعد ایسے متعدد مسلمان جو نئے نئے ایمان لائے تھے اور ابھی ایمان میں پختہ نہیں ہوئے تھے، متزال ہو گئے تھے۔ اسی طرح حضرت اُم جیبہ رضی اللہ عنہا کے شوہر جو صاحب ایمان تھے اور اپنی الہیہ سمیت جسٹہ کی جانب بھرت کر گئے تھے، وہاں جا کر مرتد ہو گئے۔ شوہر کے مرتد ہو جانے کے بعد حضرت اُم جیبہ رضی اللہ عنہا چونکہ اس کے نکاح میں نہیں رہیں تو پھر حضور ﷺ نے ان کی دلجوئی کے لئے مدینہ منورہ سے نکاح کا پیغام بھجوایا، اس لئے کہ وہ قریش کے ایک بہت بڑے سردار ابو عفیان (بنی قحافة) کی صائزادی تھیں اور اس حوالے سے ان کا بجومقام و مرتبہ تھا اس کے پیش نظر حضور ﷺ نے مناسب سمجھا کہ ان سے خود نکاح کریں۔ آپ کے علم میں ہو گا کہ حضور ﷺ کی طرف سے مرد بھی حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے ادا کیا تھا۔ اس لئے کہ بوقت نکاح حضور ﷺ مدینہ میں تھے اور حضرت اُم جیبہ رضی اللہ عنہا ابھی جسٹہ ہی میں تھیں، وہ پھر بعد میں مدینہ تشریف لائی تھیں۔

بہر حال میں نے یہ چند مثالیں دی ہیں کہ تحریکوں اور جماعتوں میں کچھ نہ کچھ لوگوں کی تو اس طرح آمد و رفت رہتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے دور میں یہ بہت کم تھی

اور آج کے دوسری غلبہ و اقامتِ دین کے لئے جو بھی تحریک اٹھے گی اس میں یقیناً ایسے واقعات نسبتاً زیادہ ہوں گے، لیکن الحمد للہ تنظیم اسلامی کو قائم ہونے سترہ برس ہو چکے ہیں، اس میں کوئی بڑا نگامہ یا کوئی بڑا اختلاف رونما نہیں ہوا، کسی بڑی تعداد میں لوگوں کی اس سے علیحدگی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور یہ چیز یقیناً ایسی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ادراک اور شعور کرتے ہوئے کہ ہمارے اس کام کی رفتار گو کم رہی لیکن اس میں دوام، تسلسل اور تواتر ہا ہے، اپنے قلب کی گمراہیوں سے اللہ کا شکردا کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ اگر یہ قافلہ اسی دوام اور تسلسل سے چلتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پائیدار نتائج کے برآمد ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے۔

### توازن و اعتدال — ایک اہم وصف

دوسری بات جس پر ہمیں صمیم قلب کے ساتھ اللہ کا شکردا کرنا چاہئے اور خاص طور پر میں اپنی ذات کے حوالے سے بار بار اس پر اللہ کا شکردا کرتا ہوں، یہ ہے کہ جیسے ہماری تنظیم میں تسلسل اور تواتر موجود ہے اسی طرح یہاں توازن اور اعتدال کا وصف بھی الحمد للہ پایا جاتا ہے۔ یہ وصف اپنی جگہ نہایت ضروری بھی ہے اور اہم بھی۔ اکثر تحریکوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مرحلے کے بعد جب وہ تحریک دوسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو پہلے مرحلے کی اہمیت نگاہوں سے او جھل ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک انسان جب سیڑھی کے ذریعے چھٹ پر چڑھ جائے تو پھر سیڑھی کی اہمیت اس کی نگاہ میں نہیں رہتی، اس لئے کہ جو مقصد اس سے حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا۔ الحمد للہ کہ ذاتی طور پر میں اس معاملے کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے میں اپنے ایسے سات برس میں نے تن تھا کام کیا۔ اُس وقت انہیں خدام القرآن کا وجود نہیں تھا۔ اس کے بعد ۱۹۷۲ء میں یہ انہیں قائم ہوئی۔ پھر ۱۹۷۵ء میں تنظیم

اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ تو درحقیقت میرے پیش نظر یہ دو کام ہیں جو قریباً متوازی اور قساوی ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں ان میں سے کس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، بلکہ یہ کہنا شاید زیادہ مناسب ہو گا کہ ان کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک گاڑی کے دو پیٹی ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلے کام کا عنوان ”دعوت رجوع الی القرآن“ ہے جس کے لئے مرکزی انجمن خدام القرآن وجود میں آئی اور دوسرا کام جس کے لئے تنظیم اسلامی تشكیل دی گئی ہے، غلبہ و اقامت دین کی چدد و جُدد سے عبارت ہے۔ رفقاء و احباب جانتے ہیں کہ اب بھی میری تو انہیوں کا کافی بڑا حصہ پہلے کام یعنی دعوت رجوع الی القرآن میں کھپ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ میں نے سمجھا ہو کہ اس کام کا تعلق تو میرے جماد زندگانی کے ابتدائی مرحلے سے تھا اور اب مجھے تحریک، تنظیم اور انقلاب ہی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہئے۔ الحمد للہ کہ اس معاملے میں میرا طرزِ عمل تو اذن و اعتدال پر بنی رہا ہے۔

### ”امان نور“ اور ”غلبہ دین حق“ : گاڑی کے دو پیٹی

اس سال ملتان میں دورہ ترجمہ قرآن کے دوران پہلی مرتبہ میرا ذہن اس حقیقت کی جانب منتقل ہوا کہ قرآن مجید میں دو مقامات پر گاڑی کے ان دو پیٹیوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ یہ محاورہ کہ گاڑی دو پیٹیوں پر چلتی ہے اس اعتبار سے بڑا معنی خیز ہے کہ اگر ایک پیٹہ جام ہو جائے گا تو گاڑی گھونمنے لگے گی، آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کے دونوں پیٹی چل رہے ہوں تو پھر گاڑی کے لئے ممکن ہو گا کہ وہ ایک خط مستقیم میں آگے کی طرف پیش قدی کر سکے۔ گاڑی کے جن دو پیٹیوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا تذکرہ سورۃ التوبہ میں بھی اور سورۃ الصاف میں بھی بالکل ساتھ ساتھ آیا ہے۔ سورۃ الصاف کی یہ آیات تو اکثر حضرات کو یاد ہوں گی اور ان کا مفہوم بھی ذہن میں ہو گا :

﴿يَنْدُونَ لِيظْفِثُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمٌ نُورِهِ وَلَوْكَرَهُ﴾

الْكُفَّارُونَ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ  
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُلَّهُ وَلَوْكَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ۝

اور سورۃ التوبہ کے الفاظ یہ ہیں :

﴿ يَرِيدُونَ أَنْ يُظْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْتِيَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِيمَ  
نُورَهُ وَلَوْكَرَهُ الْكُفَّارُونَ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ  
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُلَّهُ وَلَوْكَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ۝

ذراغور تجھے، قرآن حکیم کے یہ دونوں مقامات اسلوب کے اعتبار سے کتنے مشابہ ہیں، بلکہ الفاظ بھی کم و بیش بالکل ایک سے ہیں، صرف پہلی آیت کے بعض الفاظ ایک دوسرے سے کچھ مختلف نظر آتے ہیں، ورنہ آیت کا مفہوم ایک ہی ہے۔ یہاں دو مقاصد کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ یہ دونوں کام اب پورے ہو کر رہیں گے چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو اور چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو!! ایک مقصد ہے اتمام نور، جس کے لئے سورۃ الصفت میں الفاظ آئے : «وَاللَّهُ مُتِيمٌ نُورٌ» کہ اللہ اپنے نور کا اتمام فرمائکر رہے گا خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناپسند ہو۔ اور دوسرا کام یادو سرا مقصد اگلی آیت میں بیان ہوا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس لئے بھیجا ہے کہ وہ دین حق کو غالب کرے خواہ یہ چیز مشرکوں کو کتنی ہی ناپسند ہو! — مؤخر الذکرات سورۃ التوبہ میں بھی یعنیہ انہی الفاظ میں آئی ہے، ایک شو شے کا بھی فرق نہیں ہے : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ  
بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُلَّهُ وَلَوْكَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ۝ پہلی آیت  
میں تھوڑا سا لفظی فرق موجود ہے۔ سورۃ الصفت میں فرمایا : "يَرِيدُونَ لِيُظْفِئُوا"  
جبکہ سورۃ التوبہ میں "يَرِيدُونَ أَنْ يُظْفِئُوا" کے الفاظ آئے۔ یعنی ایک حرف ناصل  
کی جگہ دو احراف ناصل آگیا۔ اسی طرح سورۃ الصفت میں "وَاللَّهُ مُتِيمٌ نُورٌ" کے  
الفاظ ہیں جبکہ سورۃ التوبہ میں اسی مفہوم کو "وَيَأْتِيَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِيمَ نُورَهُ" کے الفاظ  
میں بیان فرمایا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ بہتر طور اپنے نور کا اتمام فرمائکر رہے گا،

خواہ یہ کافروں کو لکھاہی ناپسند ہو!

گاڑی کے انہی دونوں پیسوں کو سورۃ المائدہ کی اس عظیم آیت میں بھی جمع کیا گیا جو بڑی مشور ہے اور جس کے بارے میں یہود کے بعض علماء نے کہا تھا کہ اے مسلمانو، یہ آیت جو تمیں عطا ہوئی ہے اگر ہمیں عطا ہوتی تو ہم اس کے یوں نزول کو اپنا سالانہ جشن اور سالانہ عید قرار دیتے۔ اس آیت کے الفاظ پر توجہ مرکوز تک بھجے۔

فرمایا : ﴿أَلَيْوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْفَثْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمْ إِلْسَلَامَ دِينًا﴾ وہی دونوں چیزیں یہاں جمع کر دی گئیں : "اللیوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ" کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے "دین" کو کامل کر دیا، یعنی وہ دین حق جس کا غلبہ و اطمینان بعثت محمدی کا اصل مقصد ہے، آج مکمل ہو گیا، "وَأَنْفَثْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي" اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمادیا۔ اس سے مراد نور ہدایت کا اتمام اور تکمیل ہے جس کا ذکر سورۃ الصاف میں "وَاللَّهُ مُتَّمِثٌ نُورٌ" کے الفاظ میں وارد ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ اتمام نور یعنی اتمام ہدایت ہی درحقیقت اتمام نعمت ہے۔ گویا اصل نعمت ہے ہی نعمت ہدایت! دنیا کی کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ نعمت ہدایت کے بغیر دولت، صحت، اولاد، اقتدار غرضیکہ کوئی شے نعمت نہیں ہے بلکہ یہ سب عذاب کا موجب بن جانے والی چیزیں ہیں، ان کا غلط استعمال انسان کو ہلاکت و بر بادی سے دوچار کر دے گا۔ ہاں اگر ہدایت موجود ہو تو پھر اولاد بھی نعمت ہے، پھر دولت بھی ایک عظیم نعمت سے کم نہیں کہ انسان اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اسی طرح ہدایت اگر موجود ہو تو صحت بھی نعمت ہے کہ انسان اللہ کے دین کے لئے بھاگ دوڑ کرے گا، نعمت اور مجاهدہ کرے گا۔ نعمت ہدایت کے ساتھ ذہانت بھی ایک نعمت شمار ہو گی کہ اس کا استعمال اللہ کے دین کے لئے ہو گا، ورنہ یہی ذہانت انسان کو Evil Genius بنا دے گی اور انسان کی اخروی تباہی کا ذریعہ بن جائے گی — تو معلوم ہوا کہ اصل نعمت ہے ہی نعمت ہدایت!

## ایک قابل لحاظ فرق

اب یہ بات نوٹ کیجئے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں تو نور ہدایت بھی مکمل ہو گیا اور دین حق کا غلبہ و اظہار بھی سرزی میں عرب کی حد تک مکمل ہو گیا گویا گاڑی کے یہ دونوں پیشے مساوی انداز میں ساتھ ساتھ چلتے اور آگے بڑھتے رہے، لیکن حضورؐ کے دور کے بعد ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک فرق واقع ہو گیا۔ اس فرق کو اچھی طرح بھج لیتا چاہئے۔

دیکھئے اتمام نور تو قرآن کی شکل میں ہوا کہ ۲۳ برس میں قرآن حکیم کا نزول مکمل ہوا۔ اس طرح اتمام نور ہو گیا اور اس نور کو قیامت تک کے لئے محفوظ کر لیا گیا، اس میں اب کہیں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ لیکن اقامت دین کے مرحلہ کی تکمیل کا کام جس کے لئے سورۃ الصفت میں "اظہار دین الحق علی الالٰین کلہ" کی اصطلاح آئی ہے، حضور ﷺ کے زمانے میں ایک حد تک مکمل ہو گیا تھا کہ اندر وون ملک عرب دین حق کا پرچم لہرانے لگا۔ پھر دوڑ خلافت راشدہ میں اس کی توسعہ بڑے بھرپور انداز میں ہوئی۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ یہ عمل زک گیا، بلکہ رفتہ رفتہ دین کی یہ غالیشان عمارت منہدم ہونے لگی، یہاں تک کہ بالکل زمین بوس ہو گئی۔ اب صورت یہ ہے کہ اسلام محس ایک مذہب کے طور پر تو باقی ہے لیکن دین حق اور نظامِ اسلام اپنی صحیح صورت میں زمین کے کسی ایک خطے میں بھی قائم و نافذ نہیں، اور اب غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد ہمیں از سرنو کرنی ہو گی۔ تو یہ ہے وہ بڑا فرق جو اس معاملے میں واقع ہوا کہ دونوں کام جو نبی اکرم ﷺ کے دور میں گاڑی کے دو پیوں کی مانند ساتھ چل رہے تھے، بعد میں ہم آئنگ نہ رہ سکے۔

## اتمام نور کے ضمن میں ہماری ذمہ داری

جان تک نور ہدایت کے اتمام کا تعلق ہے، ہم مسلمانوں کے لئے یہ کتنی بڑی سولت ہے کہ ہمیں پورا لیقین اور اعتماد ہے کہ اس "کتاب" میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا

کلام ہے اور اس کا ایک حرف بھی ضائع نہیں ہوا۔ اس لئے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرَأُ لِنَا الْذِكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ﴾ (ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں)۔ قرآن حکیم اپنی جگہ خود بھی اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے اور اللہ کا ہزیز فضل و کرم ہم پر یہ ہوا کہ اس کی حفاظت کا زمہ بھی اس نے لے لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے اور ہم دنیا کی حقیری چیزوں کو اس نعمت عظمی پر ترجیح دیتے ہیں۔ بہر کیف پہلے کام یعنی "اتمام نور" کے ضمن میں ہمارے ذمے صرف ایک کام باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ نور ہدایت موجود ہے، اسے عام کیا جائے، اس کا افشاء کیا جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چراغ جلا کر بلندی پر رکھا جاتا ہے، اسے نیچے کہیں چھپا کر نہیں رکھا کرتے۔ چراغ اگر بلندی پر ہو گا تو ماحول کو منور کرے گا، اس کی روشنی پھیلے گی۔ تو نور ہدایت کا عام کرنا، اس سے ماحول کو منور کرنا اور اس کا افشاء کرنا ہمارے ذمے ہے۔ یہی بات اس حدیث نبویؐ میں آئی ہے جو حضرت عبیدہ ملکی بن ابی شہبہ سے مردی ہے۔ آپؐ نے فرمایا : ((يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَنْوَسُدُوا الْقُرْآنَ)) اے قرآن والو، قرآن کو تکمیل نہ بھالیں، اسے محض ذہنی سمارانہ بھالیں۔ بلکہ : ((وَاتْلُوهُ حَقًّا تِلَاقُهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ)) اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، رات اور دن کے اووقات میں۔ ((وَأَفْشُوهُ)) اور اسے عام کرو، اسے پھیلاؤ، چمار دانگ عالم تک اس کا نور پہنچادو!

اسی بات کا ایک متعلق نتیجہ اور بھی نکلتا ہے جس کا ذکر عظمت قرآن کے بیان میں اس طویل حدیث میں آیا ہے جس کے راوی حضرت علی بن ابی شہبہ ہیں۔ اس میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں : ((وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ)) کہ جو شخص اس قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے لازماً مگر اہ کر دے گا۔ جب ہدایت و رہنمائی کا اتنا حقی اور یقینی منع و سرچشمہ اور اتنا مکمل source (ذریعہ) تمہارے پاس موجود ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے ہدایت و رہنمائی کے لئے داکیں

بائیں دیکھنا گویا انتہا درجے کی ناقد ری ہی نہیں قرآن مجید کی توجیہ کے مترادف ہے۔ البتہ اس کا یہ مفہوم سمجھنا بھی درست نہ ہو گا کہ قرآن کے سوا اور کچھ پڑھنا ہی نہیں چاہئے! اور چیزوں کا مطالعہ کیجئے، تورات پڑھئے، انجیل پڑھئے، لیکن انہیں منع و سرچشمہ ہدایت سمجھ کر نہیں بلکہ مخفی اپنی معلومات میں اضافے کے لئے ان کا مطالعہ کیجئے۔ وہ اسی کتاب ہدایت کے سابقہ ایڈیشن ہیں جس کا تکمیلی اپڈیشن قرآن حکیم ہے۔ اسی طرح دوسرے علوم بھی اپنی معلومات میں اضافے کے لئے پڑھے جاسکتے ہیں، بلکہ دوسرے علوم کو قرآن مجید کے فم کا ذریعہ سمجھ کر سیکھئے اور پڑھئے، اس لئے کہ انسانی ذہن کا ظرف جتنا وسیع اور کشادہ ہو گا اسی کی مناسبت سے قرآن مجید سے ہدایت اور علم و معرفت کے موتو انسان اپنے دامن میں سمیٹ سکے گا۔ دامن ہی اگر تنگ ہو تو انسان کے حصے میں حکمت و معرفت کے موتو بھی کم ہی آئیں گے۔ گویا اسی "پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن!" قرآن مجید کے اندر تو ہدایت، علم اور معرفت کی کوئی کمی نہیں، ان کے جواہر سے یہ معدن بھرا پڑا ہے لیکن تمہاری اپنی تنگ دامنی آڑے آجائے تو اس کا کیا علاج؟

واضح رہے کہ دوسرے علوم کے ذریعے سے قرآن مجید کی حقانیت کا مزید میر ہن ہو جانا خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سورہ خم السجدۃ میں فرمایا گیا : ﴿سَتُرِّيهِمْ أَيْتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي الْفَسِيْهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور افس میں بھی، حتیٰ کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن مجید ہی سراسر حق ہے۔ گویا کہ جتنا انسان کے علم کا دائرہ وسیع ہو گا قرآن مجید کی حقانیت اسی درجے میں مزید میر ہن ہو جائے گی، اسی قدر اس کا اثبات زیادہ ہو گا۔ ان اقتبارات سے دوسرے علوم سے احتیاء کرنے یا ان سے ولپھی رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک بندہ مومن کے لئے یہ احساس و شعور لازم ہے کہ منع ہدایت سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں! حضور ﷺ کی یہ وارنگ ہمیشہ اس کے پیش نظر رہنی چاہئے کہ : "وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدًى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ" ۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس اقتبار سے تو اتمام نور ہو گیا کہ قرآن حکیم کا زوال حضور اکرم ﷺ پر مکمل ہوا اور اللہ نے قیامت تک کے لئے اس کی حفاظت کا مذہلے لیا، لیکن اس ضمن میں ایک کام ہمارے ذمے باقی ہے اور وہ ہے اس نورِ ہدایت کا عام کرنا، جس کے لئے حدیث میں ”وَأَفْشُوهُ“ کا لفظ آیا ہے کہ اسے پھیلانا ہو گا اور خواص کی سطح — اور یہ افشاء ہر سطح پر ہو گا، عوام کی سطح پر بھی اسے پھیلانا ہو گا اور خواص کی سطح پر بھی، فلسفیوں اور دانشوروں تک بھی اس کے ابلاغ کا حق ادا کرنا ہو گا اور شریر اور جھگڑا لوگوں پر بھی مجادله حسنے کے ذریعے جنت قائم کرنی ہو گی۔ یہ سب افشاء ہی کی مختلف سطحیں ہیں!

### گاڑی کا دوسرا پہیہ : غلبہ دین کی جدوجہد

اس گاڑی کا جو دوسرا پہیہ ہے یعنی غلبہ دین حق، اس کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ جزیرہ نما عرب کی حد تک نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں ”وَيَكُونُ الَّذِينَ كُلُّهُمُ لِلَّهِ“ کی شان ظاہر ہوئی اور دین حق کا غالبہ ملک عرب کی حد تک مکمل ہو گیا۔ پھر خلافت راشدہ کے دوران کرہ ارضی کے ایک بہت بڑے رقبے پر دین حق غالب و نافذ ہوا اور اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ لیکن پھر اس مقابلے میں زوال کا آغاز ہو گیا اور تدریجیاً زوال کے سائے گرے ہوتے چلے گئے۔ یوں سمجھتے کہ سب سے پہلے قصر اسلام کی چھٹی منزل گری، پھر انچویں منزل منہدم ہوئی، پھرچو تھی اور پھر تیسری، اور اس طرح آج سے قرباً ڈھنڈو سورس قبل پوری عمارت زمین یوس ہو گئی۔ چنانچہ اب اس کی تعمیر از سر نو کرنی ہو گی۔ برکیف اس وقت صرف اسی نکتے کی جانب متوجہ کرنا مقصود تھا کہ یہ دو کام بالکل متوازی (Parallel) ہیں، قرآن مجید نے دونوں مقامات پر یعنی سورۃ التوبہ اور سورۃ الصاف میں ان دونوں کو باہتمام یکجا بیان کیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا چاہئے کہ ان دونوں کو متوازی اور قساوی انداز میں آگے بڑھایا جائے۔ ان میں توازن و اعتدال برقرار رہنا چاہئے۔ اور اس پر بھی میں

اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اُس کے فضل و کرم کے طفیل یہ دونوں چیزیں ہمارے پیام بالکل متساوی اور متوازی شکل میں چل رہی ہیں۔ مرکزی انجمن خدام القرآن اور اس کے تحت قائم ہونے والی قرآن اکیڈمی اور اسی طرح ذیلی انجمنیں اور ذیلی اکیڈمیز موجود میں آرہی ہیں یہ سب درحقیقت ہماری گاڑی کے ایک بستے کے مظاہر ہیں جو الحمد للہ نہ صرف یہ کہ ایک تسلسل کے ساتھ روائی دواں ہے بلکہ اس کی رفارمیں بذریعہ اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ دوسرا پیغمبر تنظیم اسلامی سے عبارت ہے جس کی حرکت کو تیز کرنے کے لئے ہم نے "تحریک خلافت" کا عنوان اختیار کیا ہے۔ لیکن تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت اصلاً ایک ہی کام کے دو گوشے یاد و مرحلے ہیں اور اس تمام تر کام کا ہدف ایک ہی ہے، یعنی دین حق کا غلبہ و اقامت۔ چنانچہ فی الواقع دو ہی ہیں جو ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ ایک ہے رجوع الی القرآن کی دعوت جس کے لئے مرکزی انجمن سرگرم عمل ہے اور دوسرا ہے اقامتِ دین کی وجہ و جمود جس کی خاطر تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت بر سر عمل ہیں۔

## تحریک رجوع الی القرآن کا تسلسل برقرار رہے گا!

### ایک اور لاائق شکر اور قابل اطمینان پہلو

تیری بات جس پر میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور جس کا میں نے بارہا ذکر بھی کیا ہے، یہ ہے کہ اس کام کے باقی اور جاری رہنے کا اهتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں یہ نظر آ رہا ہے اور مجھے یہ اطمینان حاصل ہے کہ اس کام کا تسلسل ان شاء اللہ برقرار رہے گا۔ یہ بھی یقیناً اللہ کا بست بڑا فضل ہے۔ ورنہ بعض بڑی نامور ہستیاں ایسی ہو گز رہی ہیں کہ جنموں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کر کے دکھائے لیکن ان کے جانے کے بعد اس کام کا تسلسل قائم نہیں رہ سکا۔ ایک آدمی منظر سے ہٹا اور کام ختم ہو گیا۔ تو میرے لئے یہ بات بڑے اطمینان کی ہے اور اس پر بھی میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے اور میرے ساتھیوں

کو بھی اس پر اللہ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہئے۔ بالخصوص یہ جو بنیادی کام دعوت رجوع الی القرآن کا ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ محمد اللہ اب ایک ایسی نسل ٹانی تیار ہو چکی ہے اور کم و بیش چالیس پچاس نوجوانوں پر مشتمل ایک نئی نیم وجود میں آچکی ہے جو درسِ قرآن کے اس تسلسل کو ان شاء اللہ برقرار رکھنے کی وجہ سے میں آگاہ کیا تھا۔ مجھے اطمینان ہے کہ دروسِ قرآن کے حوالے سے قرآن کا انتقلابی فکر اور اس کا صفری کبریٰ ان کے ذہن و فکر کی گرفت میں آچکا ہے، اس میں جو منطقی ترتیب (Logical Sequence) ہے اسے انہوں نے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے اور وہ اب اس قابل ہیں کہ اسے بیان بھی کر سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ صلاحیت بیان میں نکھار تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور اس صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانے ہی سے پیدا ہو گا۔ لیکن اصل شے بنیادی فکر اور اس کے طرز استدلال کا ذہن کی گرفت میں آتا ہے جو الحمد للہ انہیں حاصل ہے۔ اس کے بعد تو پھر اپنی اپنی محنت اور کوشش ہے۔ اس فکر قرآنی کو عام کرنے اور بیان کرنے میں جتنی محنت اور جس درجے پر یہ کوشش ہو گی اسی نسبت سے ان کی صلاحیت نکھرے گی۔ چنانچہ گزشتہ سالانہ اجتماع کے موقع پر میرا کوئی درسِ قرآن نہیں ہوا تھا بلکہ درسِ قرآن میرے نوجوان ساتھیوں نے دیا۔ اس سال بھی سالانہ اجتماع میں انہی نوجوان ساتھیوں نے دروسِ قرآن دیئے۔

### ذیلی انجمنوں اور ان کے تحت اکیڈمیز کا قیام

اسی طرح یہ بات بھی بڑی خوش آئند اور لا تک تشکر ہے کہ مرکزی انجمن کی کوکھ سے اب تک کمی مسلک اور ذیلی انجمنیں برآمد ہو چکی ہیں۔ اس سال ۲۰ اپریل کو مرکزی انجمن کا جو اجلاسِ عام ہوا اس میں پہلی مرتبہ بست سے حضرات کے سامنے یہ بات آئی ہو گی کہ پاکستان کے کئی شہروں میں مرکزی انجمن کے طرز پر مسلک انجمنیں قائم ہو چکی ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا کہ ہمارے اس اجلاسِ عام میں ذیلی

انجمنوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے اور انہوں نے بھی اپنے اپنے علاقے کی  
انجمن خدام القرآن کا مختصر تعارف کرایا اور خدمت قرآنی کے میدان میں اپنی پیش  
رفت کا بھی اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ اس سے بڑھ مقامِ شکریہ ہے کہ ان انجمنوں  
کے زیر انتظام قرآن اکیڈمیز کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ قرآن اکیڈمی  
کراچی کی نہ صرف یہ کہ تعمیر ایک حد تک مکمل ہو چکی ہے بلکہ وہاں دینی تعلیم کے  
ایک سالہ کورس کی تدریس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ پہلی مرتبہ کسی کام کا شروع کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک بار  
محنت کرنے سے جب ایک Pattern اور عملی نمونہ سامنے آ جاتا ہے تو اس کام کا  
کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ مرکزی انجمن خدام القرآن  
لاہور کی تشکیل اور قرآن اکیڈمی کے قیام میں محنت بھی زیادہ صرف ہوئی اور وقت  
بھی بہت لگا۔ لاہور میں مسلسل پانچ چھ برس میں نے فکر قرآنی کی اشاعت کا کام تن  
تھا کیا جس کے نتیجے میں محدث اللہ ۲۷ء میں مرکزی انجمن خدام القرآن وجود میں آئی۔  
پھر مزید پانچ سال بعد قرآن اکیڈمی کی پہلی اینٹ رکھنے کی نوبت آئی۔ عمارت کی تعمیر  
بھی مرحلہ وار ہوئی۔ آغاز میں صرف دفاتر یا رہائش بلاک کی تعمیر عمل میں آئی۔ پھر  
کئی برس بعد جا کر قرآن اکیڈمی میں دینی تعلیم کے دو سالہ کورس کا آغاز ہوا۔ اس  
طرح یہ داستان برسوں پر محیط ہے۔ اس لئے کہ یہ کام پہلی بار ہو رہا تھا۔ لیکن اب  
جبکہ اس کام کا ایک ہیولی اور ابتدائی خاکہ بن چکا ہے اور اس کے بہت سے مراحل  
ٹھے ہو چکے ہیں تو قوی امید ہے کہ بقیہ گھوٹوں پر مرکزی انجمن کی نجی پر جو کام ہو رہے  
ہیں ان میں اتنا وقت نہیں لگے گا بلکہ تیز رفتاری کے ساتھ انجمن کی تاسیس سے لے  
کر قرآن اکیڈمی کی تعمیر اور آغاز تدریس تک کے مراحل ٹھے کئے جاسکیں گے۔  
چنانچہ کراچی میں محدث اللہ کام کی رفتار تیز ہے۔ اب ملتان میں بھی اللہ کے فضل و کرم  
سے ایک اکیڈمی وجود میں آچکی ہے، اس سال رمضان میں وہاں میرا درورہ ترجمہ  
قرآن بھی ہوا ہے اور اب امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک سال میں وہاں قرآن

کانچ کا آغاز ہو جائے گا۔ فیصل آباد میں مسلکِ انجمن موجود ہے۔ وہاں اکیڈمی کے لئے بعض تحریر خواتین نے ایک خاصاً سیع قطعہ زمین ہمیں بہہ کیا ہے اور اب وہاں بھی تحریر کا کام شروع ہوا چاہتا ہے۔ مجھے پوری توقع ہے کہ اس سالانہ اجلاسِ عام کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ان شاء اللہ العزیز پشاور، حیدر آباد اور اسلام آباد میں بھی بہت جلد ذیلی انجمنوں کا قیامِ عمل میں آجائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اسی سال کے دوران وہاں اکیڈمیز کا کام بھی شروع ہو جائے۔ وَهَاذِلَكَ عَلَى اللَّهِ يَعْزِيزٌ!

### دورہ ترجمہ قرآن : تحریک رجوع الی القرآن کا ایک اہم سنگ میل

اسی طرح یہ بات بھی بڑی خوش آئندہ ہے کہ اس سال ماہ رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام تربیتی آیا رہ بارہ جگہوں پر ہوا ہے۔ اس کے ضمن میں تو مجھے کبھی کبھی حفظ کا یہ شعیریاد آتا ہے کہ ۔

کیا پابند نے نالے کو میں نے

یہ طرزِ خاص ہے ایجادِ میری

یہ بات میں نے بغیر کسی ٹعب کے محض امرِ واقعہ کے طور پر عرض کی ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ اس نے میرے ذہن کو ادھر منتقل کیا۔ ہم نے جب نمازِ تراویح کے ساتھ بیان القرآن کا آغاز کیا تو شروع میں تراویح کے اختتام پر یا کبھی شیخیت میں پندرہ میں منٹ یا آدھ گھنٹے کا بیان ہوتا تھا۔ اس کے بعد میراڑ ہن اس حقیقت کی جانب منتقل ہوا کہ احادیث مبارکہ میں تو رمضان المبارک کے دو گونہ پروگرام کا ذکر ملتا ہے یعنی دن کا روزہ اور رات کا قیام قرآن حکیم کے ساتھ، یہ دونوں بالکل متوازنی پروگرام ہیں۔ اس پہلو سے محض نمازِ تراویح ادا کرنے یا ایک آدھ گھنٹے میں خلاصہِ مضامین کے بیان سے تو رمضان المبارک کا حق ادا نہیں ہوتا۔ چنانچہ پھر دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام شروع کیا گیا اور یہ بحمد اللہ آٹھواں یا نوواں موقع تھا کہ مجھے دورہ ترجمہ قرآن کی تبحیث کی سعادت حاصل ہوئی ۔۔۔ اس سال یہ پروگرام پانچ جگہوں پر ہوا۔ ایک جگہ میں نے قرآن کا ترجمہ بیان کیا اور چار دیگر

جگنوں پر میرے شاگردوں نے مکمل ترجمہ قرآن بیان کیا۔ مزید برآں دورانِ رمضان نمازِ تراویح کے ساتھ چار پانچ جگنوں پر ویڈیو کے ذریعے یہ پروگرام لوگوں نے دیکھا اور سننا۔ رجوع الی القرآن کی یہ لہ الجمد اللہ بڑھ رہی ہے اور اس میں لوگوں کا قرآن سے شفعت اور تعلق بڑھ رہا ہے۔ پوری رات قرآن حکیم اور اس کا مفہوم سننے سمجھنے میں جولزت ہے اس کا اس سے پہلے لوگوں کو تجربہ نہیں تھا۔ ”ط“ چوں معاملہ نہ دار و سخن آشنا نہ باشد!“ جب تک باہم محبت کا رشتہ نہ ہو اس وقت تک گفتگو کے اندر بھی وہ لوق اور مٹھاں پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں جب قرآن پاک سے تعارف ہو جائے اور اس سے ایک تعلق خاطر پیدا ہو جائے تو معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے، پھر پوری رات انسان قرآن پڑھنے پڑھانے یا سننے نانے میں گزار دیتا ہے اور یہ چیز اس پر ہرگز گران نہیں گزرتی!

### اب تک کی گفتگو کا خلاصہ

اب تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ الحمد للہ ہمارے اس کام میں پیش رفت ہو رہی ہے اور تمین اعتبارات سے معاملہ بہت اطمینان بخش ہے۔ ایک یہ کہ گوہمارے کام کی رفتار کچھ زیادہ نیز نہیں رہی تاہم الحمد للہ، ثم الحمد للہ اس میں تسلسل اور تواتر موجود ہے، طوفان کے مانند اٹھنے اور بگولے کی طرح رخصت ہو جانے کے مقابلے میں یہ ستر فتاری کہیں بہتر ہے اور ”سچ کے سویٹھا ہو“ کے مصدقاق توقع ہے کہ اس سے ان شاء اللہ پائیدار نتائج پیدا ہوں گے۔ دوسرا بات یہ کہ گاڑی کے دو پیسوں کی مانند ہمارے اس کام کے بھی دو بڑے بڑے گوشے ہیں اور الحمد للہ کہ ان کے مابین توازن و اعتدال برقرار ہے۔ ایک گوشہ رجوع الی القرآن کی تحریک کا ہے، جس کے پیش نظر قرآن حکیم کے نور ہدایت کو پھیلانا اور اس کے انقلابی فکر کو عام کرنا ہے۔ اس نور کا ا تمام اللہ تعالیٰ نے فرمادیا اور اس کی حفاظت کا مدد بھی لے لیا، اب ہمارا کام اس کا افشاء کرنا ہے۔ یعنی اسے چار دا انگ عالم تک پھیلانا اور ہر

مکن طریقے سے اس کا ابلاغ کرنا اب ہمارے ذمے ہے۔ اس کے لئے جماں عوامی سطح پر قرآن کے ذریعے وعظ و نصحت کا کام ضروری ہے وہاں دانشوروں اور Intellectuals کے لئے ان کی علمی سطح کے مطابق اس کا ابلاغ بھی اسی قدر ضروری اور لازمی ہے — دوسرا گوشہ اقامت دین کی جدوجہد کا ہے کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا مخفی ایک مشغله بن کر نہ رہ جائے بلکہ اس تعلیم و تعلم قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پیہہ بھی متوازی چلنا چاہئے۔ غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد اور اس کے لئے تنظیم اور تحریک کا کام بھی متوازن انداز میں آگے بڑھنا چاہئے۔ الحمد للہ کہ یہ دونوں کام بہت حد تک متوازن انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔

تیسرا بات یہ کہ آئندہ کے تسلیل کے بارے میں بھی مجھے اطمینان ہے کہ یہ کام ان شاء اللہ العزیز جاری رہے گا۔ ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اب عمر کے جس حصے میں ہوں اس کے بعد تو ”نافلۃ اللہ“ کا درجہ رہ جاتا ہے۔ اس لئے کہ ۲۶ اپریل کو میری عمر کے ساتھ برس تکمیل ہو رہے ہیں اور مسنون عمر تو گل اکٹھ یا ساڑھے اکٹھ برس ہی بنتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی عمر ۶۳ برس قمری حساب سے تھی، مشی حساب سے یہ قریباً ۶۱ برس بنتے ہیں۔ میری اس بات کو غلط مفہوم میں نہ لیا جائے کہ معاذ اللہ میں حضور اکرم ﷺ کے ساتھ اپنی کوئی مشاہست ثابت کرنا چاہتا ہوں بلکہ میں دیانتا یہ سمجھتا ہوں اور اپنے ان قریبی ساتھیوں سے اکثر یہ بات کہتا ہوں جو اس عمر کو پہنچے ہوئے ہوں کہ ساتھ اکٹھ برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد آدمی کو یہ سمجھنا چاہئے کہ مسنون عمر تو پوری ہوئی، اب بقیہ زندگی بونس ہے، یہ ”نافلۃ اللہ“ کے درجے کی چیز ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کی خدمت کے لئے صرف ہوتا چاہئے۔

## ہماری تحریک اور شجرہ طیبہ کی مثال

اس ضمن میں ایک اور نکتہ اشارتاً عرض کئے دیتا ہوں اور اس میں بھی میرے لئے اطمینان کا بہت کچھ سامان ضمیر ہے۔ سورہ ابراہیم میں ایک پاکیزہ درخت کی جو مثال آئی ہے وہ ہمارے اس کام پر بھگ اللہ بہت حد تک صادق آتی ہے: ﴿أَلَمْ ترَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعَعَهَا فِي السَّفَاءِ﴾ — کسی بھی شجرہ طیبہ یعنی پاکیزہ درخت کی یہ مثال ہے کہ اس کی جڑ مضبوطی کے ساتھ زمین میں قائم ہو اور اس کی شاخیں آسمان سے باقیں کر رہی ہوں۔ الحمد للہ کہ ہمارے کام کی بھی یہی شان ہے۔ دعوت رجوع الی القرآن کا کام اس پوری تحریک کی جڑ کے مانند ہے جو مضبوطی کے ساتھ زمین میں پیوست ہے۔ اس میں ہماری صلاحیتیں اور ہمارے وسائل بھرپور طور پر صرف ہو رہے ہیں۔ تنظیم اسلامی اس شجرہ طیبہ کے تنے کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے برگ و بارا اور اس کی شاخوں کا مقام تحریک خلافت کو حاصل ہے۔ اللہ کو اگر منظور ہوا تو یہ کام ضرور آگے بڑھے گا۔

میں نے اپنا یہ تجزیہ کئی موقع پر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ پاکستان کے اتحکام اور اس کے بقا کا اگر کوئی راستہ ہے تو یہی ہے کہ یہاں وہ صحیح اور مکمل اسلامی نظام قائم ہو جس کا عنوان ”نظام خلافت“ ہے۔ اگر پاکستان اور اہل پاکستان کے لئے اللہ نے کسی خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو قوی امید ہے کہ یہ تحریک آگے بڑھے گی اور سر زمین پاکستان پر نظام خلافت کا قیام و نفاذ ہو گا۔ اس لئے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جو غلبہ ہوتا ہے جس کی صریح پیشیں گوئیاں حضور ﷺ کی احادیث میں موجود ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس عمل کا آغاز کسی ایک خطہ زمین ہی سے ہو گا، اور اگر یہ اللہ کی مشیت میں ہے کہ اس عمل کا نقطہ آغاز سر زمین پاکستان بنے تو یقیناً غلبہ و اقامۃ دین کی یہ جدوجہد آگے بڑھے گی اور اس کی شاخیں آسمان سے باقیں کریں گی۔ ہاں ہم میں سے ہر شخص کو اپنی انفرادی حیثیت میں یہ ضرور سوچنا چاہئے کہ اس جدوجہد میں اس کا

ذاتی حصہ (Contribution) کتنا ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے ہاں تو حساب کتاب انفرادی بنیادوں پر ہو گا : ﴿ وَكُلُّهُمْ أَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرِدًا ﴾ ہاں تو ہر شخص انفرادی حیثیت میں پیش ہو گا۔ ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں تھمارا یا جائے گا اور حکم ہو گا کہ ﴿ إِنَّفِرَادَكُمْ كَفَى بِنَفْسِكُمُ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ حِسْبٌ إِنَّهُ ۝ یہ تمہاری بیان شیٹ موجود ہے، اسے پڑھو اور آج اپنے حساب کے لئے تم خود ہی کافی ہو۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہئے کہ دین کی جانب سے اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ انہیں ادا کر رہا ہے یا نہیں!

### قرآن حکیم کی بے مثال تاثیر اور قوتِ تغیر

اب تک جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ اس سے پہلے بھی مختلف موقع پر بالخصوص ماہ رمضان المبارک کے دوران مختلف اجتماعات میں بیان کرچکا ہوں۔ آج میں ایک اور اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو مرکزی انجمن خدام القرآن کے حالیہ سالانہ اجلاس کے موقع پر میں بطور تحفہ شرکاء اجتماع کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ ہاں ذیلی انجمنوں کے نمائندگان کی تقاریر زیادہ طویل ہو گئیں تو وقت کی کمی کے پیش نظر میں نے اپنی اس گفتگو کو ملتوی کر دیا۔ چنانچہ وہ تحفہ میں آپ کی خدمت میں اب پیش کر رہا ہوں، اور اس کا تعلق قرآن مجید کی قوتِ تغیر اور اس پر اعتماد اور توکل سے ہے۔

یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ بندہ مومن کے لئے اصل سارا اللہ کی ذات ہے، اور خواہ کوئی ظاہری اور مادی سارا موجودہ ہو اور بظاہر ہر طرف سے مایوسی نظر آتی ہو، ایک بندہ مومن اللہ ہی پر توکل کرتا ہے اور اس کی رحمت کی آس گائے رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں جا بجا اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ یعنی اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے۔ لیکن میں آج جان بوجہ کر قرآن حکیم پر اعتماد اور توکل کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ لوگ

چونکیں، ان کے ذہنوں میں سوال اٹھے اور وہ توجہ سے اس بات کو سنیں کہ قرآن کی قوت تنبیخ اور اس پر توکل و اعتماد کے بارے میں وہ کیا بشارتیں ہیں کہ جو خود قرآن مجید میں دار و ہوئی ہیں۔

### قرآن حکیم کی شان

کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آسکتی ہے کہ توکل کے لفظ کا قرآن حکیم کے ساتھ اس طور پر استعمال شاید کچھ غیر مناسب ہے۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو پوری وضاحت سے بیان کروں۔ دیکھئے، قرآن مجید ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ جو تاشیرِ تجلی ذات باری تعالیٰ کی ہے وہی تاشیر قرآن مجید کی بھی ہے۔ سورۃ الاعراف میں یہ واقعہ نہ کو رہے کہ حضرت موسیٰ ﷺ نے بارگاہ رَبِّ الْعِزَّة میں درخواست کی کہ «رَبِّ أَرِنِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ» کے اے پروردگار میں تجھے پچھش سرد یکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ﷺ کو یہ بات سمجھانے کی غرض سے کہ وہ تجلی ذات حق کا تحمل نہ کرپائیں گے، اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی۔ قرآن حکیم نے اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے : ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاً وَخَوَّا مُوسَى صَبَعَقاً﴾ کہ حضرت موسیٰ ﷺ اللہ تعالیٰ کی تجلی ذات کے بالواسطہ مشاہدے کا تحمل بھی نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہی بات قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں ایک تمثیل کے پیرائے میں سورۃ الحشر میں آتی ہے : ﴿لَوْأَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاسِعًا مُتَصَدِّدًا عَامِنْ حَشِيشَةَ اللَّهِ﴾ یعنی ”اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے۔“ تو درحقیقت جو تاشیرِ تجلی باری تعالیٰ کی ہے وہی بہت اور وہی دید بہ کلام باری تعالیٰ کا ہے۔ ان دونوں میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اس حقیقت کو بھی علامہ اقبال نے خوب سمجھا اور بڑی خوبصورتی سے اشعار کے قالب میں ڈھالا ہے۔ میرے علم کی حد تک اس ڈور میں اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذہن کی رسائی یہاں تک ہوئی

ہو۔ فرماتے ہیں :

۲۳

فاش گویم آنچہ در دل مضر است  
ایں کتابے نیت چیزے دیگر است  
مثیل حق پیش و ہم پیدا است ایں  
زندہ و پائندہ و گویاست ایں

کہ میں تم سے صاف ہی کہہ دوں جو کچھ میرے دل میں ہے، یہ کتاب نہیں کچھ اور  
شے ہے۔ اسے عام معنوں میں کتاب نہ سمجھو، یہ ”چیزے دگر“ ہے۔ یعنی جیسے اللہ  
تعالیٰ کی ذات الظاهر بھی ہے اور الباطن بھی، اسی طرح یہ کتاب بھی یہی وقت ان  
دونوں متضاد صفات کی حامل ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات الٹی اور القيوم ہے اسی  
طرح اس کا کلام بھی زندہ و پائندہ ہے۔ قرآن حکیم کے لئے ”کتاب زندہ“ کے  
الفاظ تو اقبال نے اور بھی کئی مقامات پر استعمال کئے ہیں۔ مثلاً ۔

ایں کتاب زندہ قرآن حکیم  
حکمت او لایزال است و قدیم

ببرحال، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی قوت تفسیر کے بارے میں ہم نے بڑی  
ناقد ری کا معاملہ کیا ہے۔ ہمیں نہ تو قرآنِ حکیم کی عظمت کا دراک حاصل ہے اور  
نہ اس کی قوت تفسیر پر اعتماد۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت اور کیسی  
عظمیم قوت ہے جو اللہ نے قرآنِ حکیم کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔

### دو عظیم بشارتیں

اسی ضمن میں سورۃ طہ کی ابتدائی دو آیات اور سورۃ القصص کی آیت ۸۵ کے  
حوالے سے بھی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ طہ کی پہلی آیت حروف  
قطعات پر مشتمل ہے ﴿ طه ۰﴾ جبکہ دوسری آیت ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ  
لِتُشْفَقِي ۰﴾ میں ایک عظیم حقیقت کا بیان ہے۔ یہاں خطاب نبی اکرم ﷺ سے ہے  
کہ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام ہوں یا بے

مراد ہوں — یہاں ایک تھوڑی سی تفسیری وضاحت ضروری ہے۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ”اے نبی، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ لفظ ”تشقی“ کامادہ ”شقی“ ہے جس سے ”شقی“ کا لفظ بنتا ہے۔ یہ لفظ ”سعید“ کے مقابلے میں آتا ہے۔ چنانچہ شقی اس کو کہتے ہیں جو بد بخت ہو، ناکام ہو، بے مراد ہو۔ یعنی وہ شخص جس کی جدوجہد لا حاصل رہے، نتیجہ خیز نہ ہو رہی ہو، وہ شقی ہے۔ جبکہ مشقت کا لفظ ”شقق“ کے مادے سے بنتا ہے۔ یہ دونوں مادے چونکہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور اسی قرب کے باعث ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر مترجمین نے ”لتشقی“ کا ترجمہ ”مشقت“ سے کیا ہے۔ تاہم مجھے ان سے اختلاف ہے۔ یہاں درحقیقت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے محمد ﷺ یہ قرآن آپ پر اس لئے نازل نہیں ہوا کہ آپ ناکام ہوں، یہ تو کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس قرآن میں جو قوتِ تحریر اور جو تاثیر مفسر ہے اس کے پیش نظر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے آپ ناکامی سے دوچار ہو جائیں۔ آپ یقیناً کامیاب ہوں گے اور منزلِ مراد تک پہنچیں گے۔ اس دنیا میں بھی آپ کی جدوجہد کامیابی سے ہم کنار ہو گی اور آخرت میں بھی آپ کے مراتب بلند سے بلند تر ہوں گے۔ شقاوت آپ کے حصے میں نہیں آسکتی، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ قرآن آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے، یہ شقاوت کی ہر اعتبار سے نفعی کرنے والا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس میں ہر اس شخص کے لئے جو قرآن مجید کی کسی بھی درجے میں خدمت کر رہا ہو، کس قدر بشارت ہے اور اس کی دلبوٹی کا کتنا پچھہ سامان اس میں مفسر ہے :

﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتُشْفَىٰ﴾ اس قرآن کی شمشیر کو ہاتھ میں لو، اس کے حقوق کو ادا کرنے کے لئے کمر بستہ ہو جاؤ، تم خود اپنی آنکھوں سے اس کی قوتِ تحریر کا مشاہدہ کرو گے۔ اس کے اندر جو بیت پشاں ہے اور اس میں جو بے پناہ تاثیر پوشیدہ ہے، قدم قدم پر اس کے مظاہر تمہارے سامنے آئیں گے اور تم پچشم سران کا

مشاهدہ کر سکو گے۔

اس ضمن میں تیسرا آیت جس کامیں حوالہ دینا چاہتا ہوں، سورۃ القصص کے آخری حصے میں وارد ہوئی ہے۔ تفسیری اعتبار سے اس آیت کے مفہوم کی تعین میں بھی کچھ اختلاف کیا گیا ہے۔ فرمایا : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ کہ اے نبی جس ہستی نے آپ پر یہ قرآن لازم کیا ہے، (اس قرآن کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کا فرض جس نے آپ پر عائد کیا ہے) وہ آپ کو لازماً لوٹائے گا ایک اعلیٰ لوٹنے کی جگہ کی جانب — بعض حضرات نے یہاں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ ”معاد“ سے مراد مکہ مکرہ ہے۔ ان حضرات کے نزدیک اس آیت کا تعلق آپ کے سفر ہجرت سے ہے کہ جب آپ ہجرت کے لئے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو مشرکین مکہ کے تعاقب سے بچنے کے لئے کچھ ذور تک آپ نے عام شاہراہ سے ہٹ کر ایک مشکل راستہ اختیار کیا تھا۔ اس لئے کہ اگر آپ عام شاہراہ پر سفر کرتے تو تعاقب کرنے والوں کی نگاہ میں آ جاتے۔ چنانچہ آپ نے وہ پہاڑی راستہ اختیار کیا جو بالکل غیر مستعمل اور غیر مانوس تھا۔ لیکن تقریباً ایک تھائی سفر طے کرنے کے بعد آپ پھر اسی شاہراہ پر آگئے جو مکہ سے مدینہ کی طرف جاتی تھی۔ جب آپ وہاں بچنے تو چونکہ وہاں آپ کے لئے ایک دورا ہے کی صورت بن گئی تھی کہ ایک راستے کے کو جاتا تھا اور دوسرا مدنیے کی جانب، تو دل میں ہوک سی اٹھی گویا کہ مکہ نے پھر اپنی طرف کھینچا، بیت اللہ سے اور حرمؓ کی سے جو محبت محمدؓ رسول اللہ ﷺ کو تھی، اس نے آپ کو وقتی طور پر بے چین کیا، اس وقت دل جوئی کے لئے یہ آیت نازل ہوئی : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ کہ اے نبی، آپ گھبرا یئے نہیں، مکہ اور بیت اللہ سے آپ کی یہ جدا ہی عارضی ہو گی، ہجر کا یہ معاملہ مستقل نہیں رہے گا، یقیناً وہ رب جس نے آپ پر قرآن مجید کی تبلیغ اور اس کی دعوت کافر یہ سعادت کیا ہے وہ آپ کو لوٹا کر لے جائے گا لوٹنے کی جگہ یعنی مکہ مکرہ!

میرے نزدیک یہ بات اپنی جگہ ایک لطیف خیال کے درجے میں تو صحیح ہے لیکن

اگر سورۃ القصص کے زمانہ نزول کو دیکھا جائے اور بعض دیگر قرآن کو پیش نظر رکھا جائے تو اس آیت کی یہ تاویل مطابق واقعہ معلوم نہیں ہوتی۔ سورۃ القصص اپنے مضامین اور اسلوب کے اعتبار سے ان سورتوں میں شمار ہوتی ہے جو حضور اکرم ﷺ کے کلی دور کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئیں۔ پھر یہ بات بھی بڑی قبل لحاظ ہے کہ فتح مکہ کے بعد بھی حضور ﷺ نے دوبارہ مکہ میں قیام اختیار نہیں فرمایا، حالانکہ فتح مکہ کے بعد اگر آپ چاہتے تو وہیں قیام فرماتے، مدینہ مراجعت اختیار نہ فرماتے۔ اس اعتبار سے بھی وہ تاویل خلاف واقعہ نہیں ہے۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ”معاد“ سے مراد ہے آپ کا مقام، آپ کے لوٹنے کی جگہ، اعلیٰ انجام۔ جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں بشارت کے طور پر فرمایا گیا : ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّخْفُوذًا﴾ کہ آپ کو تو آپ کارب مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اس لئے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص قرآن کی دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہو، لوگوں کو قرآن حکیم کی طرف بلانے میں وہ رات دن ایک کر رہا ہو اور پھر وہ ناکام ہو جائے! نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ﴿إِنَّ اللَّهَيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَدْكَ إِلَيِّ مَعَادٍ﴾۔ اے بنی یقیناً آپ ایک بہت اعلیٰ انجام سے دوچار ہوں گے، آپ کی جدوجہد کا ایک بہت اعلیٰ نتیجہ نکلے گا جس سے کہ آپ ہم کنار ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں آیات قرآن مجید کے بارے میں بڑی عظیم بشارتوں پر مشتمل ہیں۔

### میری زندگی کے دو عجیب واقعات

اس دوسری آیت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آیا۔ بلکہ چونکہ آج دو چیزوں کا تذکرہ چل رہا ہے یعنی مرکزی انجمن اور تنظیم اسلامی تو اس مناسبت سے دو ہی واقعات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کا تعلق ۷۵ء سے ۷۲ء تک کے عرصے سے ہے جب مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی اور تنظیم اسلامی کے قیام کے لئے میدان ہموار ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک

واقعہ دراصل ایک خواب ہے جس کا تذکرہ میں کچھ ڈرتے اور مجھکتے ہوئے کر رہا ہوں کہ کہیں لوگ یہ خیال نہ کریں کہ اب یہ بھی خوابوں کی دنیا میں آگیا۔ یہ خواب آج سے بیس برس پلے کا ہے اور اس سے قبل میں نے بعض قریبی احباب کو سنایا بھی ہے۔ جس زمانے میں میں تنظیم اسلامی کے قیام کے بارے میں سوچ بچار کر رہا تھا اور تقریباً اس کے قیام کا فیصلہ کرچکا تھا میں نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مر گیا ہوں اور میں اپنے جنازے کا منظر بھی ایک چشم دید گواہ کی حیثیت سے خود کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ میں اپنی موت کے تمام مراحل یہاں تک کہ قبر میں اتارے جانے کا بھی خود مشاہدہ کر رہا ہوں۔ یہ ایک عجیب تجربہ تھا کہ میری نگاہوں کے سامنے مجھے قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ میں نے اسی وقت بعض بزرگوں سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک دوڑ ختم ہو گیا ہے اور دوسرا دراب شروع ہوا چاہتا ہے۔ یعنی ایک عزم مصمم کے ساتھ اقامت دین کی تحریک کے از سرنو آغاز کا جو ارادہ کر لیا ہے یہ درحقیقت اس بات کے متtradف ہے کہ ایک زندگی ختم ہوئی اور ایک بالکل نیا دراب شروع ہو رہا ہے۔ (والله اعلم)

دوسراؤاقعہ بھی میری ایک ایسی کیفیت سے متعلق ہے جو بیداری اور نیند کے بین بین تھی۔ واقعہ کے سرور اور لذت کا ابھی تک مجھے احساس ہوتا ہے۔ یہ خواب نہیں تھا بلکہ ایک خاص کیفیت تھی جو نیم غنودگی کی حالت میں مجھ پر طاری ہوئی۔ کچھ ”بَيْنَ النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ“ کا سامعالہ تھا۔ نیند اور بیداری کے مابین ایک کیفیت میں، میں محسوس کرتا ہوں کہ لگاتار ایک آواز میرے کان میں آ رہی ہے۔ کوئی مسلسل مجھے یہ الفاظ قرآنی سن رہا ہے کہ : ﴿إِنَّ اللَّهَيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَدُكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ اس کے بعد جب میں پوری طرح بیدار ہوا تو ایک عجیب سرور، انبساط اور انتشار کی کیفیت جس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، مسلسل کئی روز تک بلکہ کافی عرصے تک مجھ پر طاری رہی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت مجھے

نہ لاش کرنا پڑا تھا کہ یہ آیت قرآنِ حکیم کے کس حصے اور کس سورۃ میں ہے۔ اس لئے کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا باضابطہ مطالعہ تو اگرچہ بحمد اللہ زمانہ طالب علمی سے جاری ہے لیکن زیادہ تفصیلی غور و فکر کا اصل موقع مجھے اپنے سلسلہ وار درسِ قرآنِ حکیم کے ساتھ ملا، بالخصوص تفسیری اختلافات اور مختلف آراء کے مابین اپنی آخری رائے میں نے زیادہ تر اپنے مسلسل درس کے دوران ہی قائم کی ہے۔ اور اُس وقت جبکہ میں اس دلفریب تجربے سے گزر امیرادرس، قرآنِ حکیم کے اس مقام تک نہیں پہنچا تھا۔ اگر تو ایسا ہوتا کہ سورۃ القصص انہی دنوں میرے زیر درس آئی ہوتی اور اس وجہ سے میرے ذہن پر یہ کیفیت طاری ہوتی تو شاید میں اس کی کوئی دوسری تاویل کرتا۔ لیکن چونکہ یہ بات نہیں تھی المذاہ سے میں نے اپنے حق میں بہت بڑی بشارت سمجھا۔ سرو رو انہساط کی کیفیت دیر تک مجھ پر طاری رہی اور ”إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَوْاْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ“ کی مٹھاس اور حلاوت کا تاثر ایک عرصے تک میرے قلب و ذہن کو فرحت بخشارہا۔

ذہن و قلب پر قرآنِ حکیم کا سلطان اور اس کے مظاہر

قرآنِ حکیم کی قوت تغیر کے ضمن میں میں ایک اصطلاح استعمال کیا کرتا ہوں کہ قرآن اپنے طالب کو possess کر لیتا ہے، اس کے ذہن و قلب کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ میرے بعض ساتھی یہی لفظ میرے لئے استعمال کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ میں اگر اس کیفیت سے نکلنایا نکلنے کی غرض سے ہٹا بھی چاہوں تو ہل نہیں سکتا۔ اس لئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں جس طرح اس کام میں لگا ہوں اس طور سے کام اپنے کسی ارادے اور منصوبے کے تحت نہیں ہوا کرتے۔ ایسی کیفیت تو اسی شخص کی ہو سکتی ہے جو کسی عظیم قوت تغیر کے زیر اثر کسی شکنے میں آگیا ہو، جکڑا آگیا ہو۔ حالانکہ ایسا بھی ہوا کہ کئی کام جو میں نے پالا رادہ شروع کئے، کوشش کے باوجود میں انہیں مکمل نہیں کر سکا۔ مثلاً ایک موقع پر

میں نے اپنے ذاتی حالات لکھنے شروع کئے لیکن وہ سلسلہ بیچ ہی میں کہیں رک گیا۔ خدمت قرآنی کا کام بھی اگر میں محض اپنے ارادے کے تحت کرتا تو اس طور سے ہرگز نہ کر پاتا جیسا کہ اللہ نے مجھ سے کروایا ہے۔ اللہ کی تائید و توفیق قدماً پر میرے شامل حال رہی۔ میں نے جب اپنی میڈیکل پریکش بند کی تو کوئی ذریعہ معاش تھا نہ کوئی جائیداد میرے پاس موجود تھی۔ لیکن میں نے توفیق الٰہی سے یہ طے کر لیا تھا کہ اب جسم و جان میں جو بھی تو انہی کی رمش باقی ہے وہ اسی کام میں لگے گی۔ میرے پاس کرشن ٹکر میں اپنی رہائش کے لئے بس ایک مکان تھا جسے بعد میں بیچ کر قرآن اکیڈمی کے سامنے مکان بنوایا۔ اس کے سوا اور کوئی جائیداد میرے پاس موجود نہیں تھی، لیکن اللہ نے ہمت دی اور میں نے طے کر لیا کہ آئندہ زندگی کا کوئی لمحہ اب تلاش معاش میں صرف نہیں ہو گا، سارا وقت اور صلاحیتیں معاوکے حصول میں صرف ہوں گی۔ ظاہریات ہے کہ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ میرے پاس اگر وسائل ہوتے، جاگیریں ہوتیں اور ان کے مل پر میں یہ فیصلہ کرتا تو معاملہ مختلف ہوتا۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت سب بھائیوں کے ساتھ میرے تعلقات کشیدہ تھے۔ چنانچہ ان میں سے کسی کا تعاون مجھے اس وقت حاصل نہیں تھا۔ بڑے بھائی کے ساتھ تو بعد میں بھی اس طرح کے حالات نہیں رہے کہ ان کی جانب سے تعاون کا معاملہ ہوتا، البتہ چھوٹے بھائی اقتدار احمد نے تعاون کیا، لیکن اس کی نوبت بہت بعد میں آئی۔ انہوں نے بعد میں ایک موقع پر جب مجھے یہ پیشکش کی کہ میں آپ کے کام میں شریک ہونا چاہتا اور آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں تو پہلی بات میں نے ان سے یہ کہی کہ اگر تو صرف بھائی ہونے کے ناطے سے تعاون کرنا چاہتے ہو تو مجھے قبول نہیں، ہاں اگر تمہیں میرے اس مشن کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے اور اس میں تعاون کرنا چاہتے ہو تو سر آنکھوں پر۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کی قوت تحریری کا اثر تھا کہ کسی قسم کے معاشی وسائل نہ رکھتے ہوئے بھی اور کسی دنیاوی سارے کے

موجود نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے اپنی میڈیکل پریکٹس کو خیر باد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دعوت رجوع الی القرآن کے کام میں بھہ وقت مشغول ہو گیا۔ اسے اس کے سوا اور کیا کما جاسکتا ہے کہ Quran ہی نے مجھے possess کر لیا تھا اور میرے ذہن و قلب کو پورے طور اپنی گرفت میں لے لیا تھا!

### رسول اور کتاب — ایک حیاتیاتی وحدت

اسی ضمن میں ایک اور بات کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ یہ ایک نازک سامنہ ہے۔ میرے درسِ Quran سخنے والے اکثر حضرات کے علم میں ہے کہ اہم مضامین Quran مجید میں تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ کم از کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم مضامون یہ بھی ہے کہ ”رسول“ اور ”کتاب“ دونوں مل کر ایک حیاتیاتی اکائی (Organic Whole) کی مانند ایک وحدت بنتے ہیں۔ اور دنیا میں جو بھی خیر و خوبیں آتی ہے اور جو بھی انفرادی یا اجتماعی تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ در حقیقت ان دونوں کی مشترک تاثیر کا نتیجہ ہے۔ اب میں Quran عکم کے ان دو مقامات کاحوالہ دون گاجہاں رسول اور کتاب کو ایک وحدت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البیتہ میں فرمایا گیا : ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِرِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيهِمُ الْبِيْتَةُ﴾ ”نسیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مشرکین میں سے اور اہل کتاب میں سے باز آئے والے جب تک کہ ان کے پاس ”بیتہ“ (یعنی واضح دلیل) نہ آجائی۔ اگلی آیت ”بیتہ“ کیوضاحت پر مشتمل ہے : ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَنْهَا صَحْفًا مُّظَهَّرًا فِيهَا كُتُبٌ قِيمَةٌ﴾ ”یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے پڑھتا ہوا (اللہ کے) پاکیزہ صحیفوں کو جن میں حکم کتابیں ہیں۔“

گویا کہ ”رسول مِنَ اللہِ“ اور ”صَحْفًا مُّظَهَّرًا فِيهَا كُتُبٌ قِيمَةٌ“ یہ دونوں مل کر ”بیتہ“ بنتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال سورۃ الطلاق میں ہے، جہاں فرمایا گیا :

﴿فَدَأْنُرُلَا إِلَيْكُمْ ذَكْرٌ ۝ رَّسُولًا يَشْلُو عَلَيْكُمْ أَيْتِ اللَّهُ مُبِينٌ  
لِّيَخْرِجَ الظَّالِمِينَ أَفْتَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَنَظَرُ الظَّالِمِ إِلَى التَّنُورِ﴾  
”ہم نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کر دیا ہے (یعنی) ایک رسول جو تمہیں  
پڑھ کر سنا تاہے اللہ کی واضح آیات تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان اور عمل  
 صالح کا حق ادا کریں تاکہ مرکب سے نکال کر روشنی میں لے آئے!“

تو معلوم ہوا کہ ”ذکر“ بھی رسول اور کتاب دونوں کا مرکب ہے اور ”بینہ“ بھی۔  
اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ دو اجزاء پر مشتمل کسی مرکب کے ایک جزو کو اگر  
آپ زیادہ اہمیت دے دیں گے تو دوسرے جزو کی اہمیت اسی نسبت سے کم ہو جائے  
گی۔ اگر آپ ایک جزو کو زیادہ **emphasize** کر دیں گے تو اس کا منطقی نتیجہ نکلے گا  
کہ دو سرا جزو پس منظر میں چلا جائے گا اور ان دونوں اجزاء کی جو مشترک تاثیر ہے وہ  
برقرار نہیں رہے گی۔ یہی حادثہ اس امت کے اندر بھی پیش آیا اور ”رسول“ اور ”  
کتاب“ پر مشتمل مرکب کے دونوں اجزاء کی اہمیت میں دو اعتبارات سے کمی پیش  
کی کوشش کی گئی۔ چنانچہ ایک انتہا پر مذکورین حدیث اور مذکورین سنت ہیں جو رسول  
کی اہمیت کم کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل شے کتاب ہی ہے اور رسول کی  
حیثیت گویا محض ڈاک کے ہر کارے کی ہے۔ جیسے چھپی رسان کا کام چھپی پہنچانا ہوتا  
ہے جو اصل اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اسی طرح رسول کا کام اللہ کا پیغام پہنچانے ہے  
سونہ اس نے پہنچا دیا، اب اصل شے یہ قرآن ہے، ”الذَا اصل اہمیت اسی کی ہے۔ یہ  
بات بظاہر بڑی دل کو لگتی ہے، لیکن یہ درحقیقت ”كلمة حق اريد به الباطل“ والا  
معاملہ ہے، یعنی بات تو درست ہے، لیکن اس سے جو نتیجہ نکلا جانا مقصود ہے وہ باطل  
ہے۔ اس لئے کہ اس طرح نبی ﷺ کی ذات کی نفی کی جا رہی ہے، ان کی سنت کی  
حیثیت کا انکار کیا جا رہا ہے، اور قرآن کی جو تشریع و توضیح آپ ﷺ نے اپنے قول و  
عمل سے فرمائی ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔

اس مسئلہ کا دوسرا پہلو بھی اسی درجے انتہا پسندانہ ہے۔ یہ بات ڈاکٹر بہان

احمد فاروقی صاحب نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہے کہ یہ جو مرکب ہے رسول اور قرآن کا، عام مسلمانوں نے اس میں سے رسول کی ذات کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ دوسرے جزو یعنی قرآن کی اہمیت کی نفی ہو گئی ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو بھی تربیتی، اصلاحی اور انقلابی کام ہوا وہ رسول ﷺ کی محبت ہی سے ہوا۔ اس تاثر سے قرآن کی تاشیر کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ بات ذرا باریک بھی ہے اور نازک اور احساس بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان حقائق کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ اس سے ایک عام مسلمان کو یہ مغالطہ لاحق ہو سکتا ہے کہ شاید اس طرح حضور ﷺ کی توبہ کی جا رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن دراصل اس معاملے میں توازن کی ضرورت ہے۔

### دیوانہ بکارِ خویش ہوشیار!

عوایی سطح پر ہمارے جو دینی تصورات ہیں ان میں عمل سے فرار کا عضر بہت نمایاں ہے۔ اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ نبی ﷺ کو اتنا اوپنچا کرو، اتنا اوپنچا کرو کہ خدا کے برابر بٹھاؤ۔ توجہ خدا کے برابر بٹھاؤ گے تو اب ایتباع کا سوال ہی نہیں ہے۔ اب تو حمد ہی ہو سکتی ہے، تعریف ہی ہو سکتی ہے، آپ کی شان میں نعمت کی جاسکتی ہے، لیکن آپ کا ایتباع تو نہیں ہو سکتا۔ ایتباع تو کسی انسان ہی کا ہو سکتا ہے، کسی معبدوں کا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ کا ایتباع نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، ایتباع تو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ جو کیا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا بنادیا گیا یہ بھی درحقیقت انسان کی وہی چالاکی ہے کہ اگر ہم نے انہیں انسان کی سطح پر رکھا پھر تو ان کی پیروی لازم ہو جائے گی۔ اگر وہ انسان ہی تھے پھر تو ان کا ایتباع ضروری ہے، پھر تو ان کے نقش قدم پر چلانا لازم ہو گا۔ لہذا انہیں انھاؤ اور انھا کر معبودوں کی فہرست میں شامل کردو۔ اسے کہتے ہیں ”دیوانہ بکارِ خویش ہوشیار!“ چنانچہ یہ یوں ہی نہیں ہوا ہے کہ بس نعمت پڑھ لیں تو حضور ﷺ کا حق ادا ہو گیا، باقی

کہاں ہم کہاں حضور ﷺ کا مقام! ہم سے آپ کا تباع کیسے ممکن ہے؟ یہ کہا اور فارغ ہوئے۔ ٹھیک ”عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنانے کے تقدیر کا بہانہ!“

### قرآن سے بے اعتنائی کی مختلف وجوہات

اس کے علاوہ متعدد و مگر عوامل ہیں جو قرآن کریم کی اہمیت کو کم کرنے اور اسے مسلمانوں کی نگاہوں سے او جمل رکھنے کا سبب بنے ہیں اور یہ ایک منظم سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے اس موضوع پر ایک مقالہ تحریر کیا تھا جو ماہنامہ میثاق میں شائع بھی ہوا تھا، جس میں انہوں نے دلائل سے یہ بات ثابت کی تھی کہ یہ معاملہ از خود نہیں ہوا بلکہ قرآن کو منظر سے ہٹانے کی اور اس کی تعلیمات کو مسلمانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کی دانستہ کو ششیں کی گئیں۔ عوام الناس پر ظلم ڈھانے والے اور ان کے حقوق غصب کر کے خود عیاشیاں کرنے والے سلاطین و ملوک اور جاگیر دار و سرمایہ دار نہیں چاہتے تھے کہ قرآن کا انقلابی فکر لوگوں کے سامنے آئے۔ ٹھیک ”چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب!“ انہیں اندازہ تھا کہ اگر یہ کتاب اور اس کی روشن تعلیمات لوگوں کی نگاہوں میں آئیں تو ہم نگے ہو جائیں گے، لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اور ہمارے استھانی نظام کے بخی اور ہڑ جائیں گے۔ لذابتیری ہے کہ اسے بند رکھو، اسے صرف حصول ثواب کا ذریعہ بنادو، گاہے بگاہے ختم قرآن یا ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کر لی جائیں، کچھ کھانے پینے کا سلسہ ہو جائے، اللہ اللہ اور خیر سلا! تو یہ سب کچھ درحقیقت ایک سازش کے تحت ہوا ہے۔

اس کے ساتھ ہی ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ جب تاثیر قرآن کی طرف سے توجہ ہٹ گئی اور ایمان کے حصول کا صرف ایک ہی ذریعہ یعنی تاثیر صحبت محمدی ﷺ ذہنوں میں باقی رہ گیا تو یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ صحبتِ محمدی ﷺ تو ہمیں حاصل نہیں ہے، اب کیا کیا جائے! — چنانچہ اس کی تلافی کے لئے یہ مرائب یہ سارے اوراد و

آشغال اور ریاضتیں اور ریاضتیں، غرضیکہ ایک لمبا چوڑا طونا روجو دین لایا کیا۔ یہ سب کچھ مخفی اس دلیل پر ہوا کہ جو اصل عامل تھا یعنی تاثیر صحبت نبوی وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہے لذ اسکا کوئی نہ کوئی بدل ہونا چاہئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اشغال اور ریاضتیں اور یہ چالیس چالیس برس کی بادیہ پیائی اور نفس کثی کے یہ مختلف انداز یہ سب چیزیں ہمارے عوام میں اعلیٰ اقدار شمار ہوئے لگیں۔ لوگوں کی دینداری کو اسی پیانے سے نپا جانے لگا اور اس چیز نے ہمارے دینی فکر کو اس کے اصل مرکزوں محو ریعنی قرآن حکیم سے ہٹا دیا۔ اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے رسول اور کتاب کے مرکب میں سے کتاب کی قوت تاثیر کو منہا کر دیا۔ یہ ہم سب کے لئے ایک لمحہ فکری ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

### اصل فیصلہ گُن شے قرآن ہے!

اب آئیے اس سلسلے کی تیسرا آیت کی طرف جو سورۃ بنی اسرائیل کے آخری حصے میں وارد ہوئی ہے:

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ ۵۰

”(اے نبی ﷺ) ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے“ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بیش اور نذر یہ بنا کر۔“ یہاں بھی آپ دیکھئے کہ قرآن حکیم اور نبی اکرم ﷺ دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہے۔ بالخصوص قرآن حکیم کا ذکر جس زور دار اور فیصلہ کن انداز میں یہاں آیا ہے وہ بہت قابل توجہ ہے۔ قرآن حکیم کیلئے ”بِالْحَقِّ“ کی سکرار اس کی غیر معمولی اہمیت و عظمت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو اسی نکتے کی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصل فیصلہ کن شے یہ قرآن ہے۔ چنانچہ یہی وہ شے ہے جس کیلئے بقا اور دوام ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے بارے میں قرآن حکیم میں ایک مقام پر یہ الفاظ بھی آئے ہیں : ﴿إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ﴾ کہ ”اے نبی آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا

اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ لیکن نوع انسانی کا تسلسل تو قیامت تک باقی ہے، ان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اصل شے کو نہی شے ہے؟ یہی قرآن، جس کو بقا اور دوام حاصل ہے۔ اصل قوت تحریر اس قرآن میں ہے۔ یہ قرآن لوگوں کو possess کرے گا۔ ان کے ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے کر ان کے باطن میں انقلاب برپا کرے گا۔ جو اس قرآن کی راہنمائی سے فائدہ اٹھائیں ان کیلئے بشارتیں بھی اس قرآن میں موجود ہیں اور جو اس سرچشمہ ہدایت کو رد کر دیں ان کیلئے تنیسر اور وارنگ ہے کہ ایک در دن اک عذاب ان کا منتظر ہے :

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰتِينَ هُنَّ أَقْوَمُ وَيَسِّرُ اللُّهُمَّ إِنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصِّلْحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْزَاءًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْنَدُوا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ۵۰

حاصل کلام یہ ہے کہ اصل تاثیر اور قوت تحریر اس قرآن میں ہے جس کیلئے الفاظ آئے: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ﴾ اور حضور اکرم ﷺ کے بارے میں فرمایا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا﴾ کہ اے نبی بشارت دینا اور انذار کرنا آپ ﷺ کا کام ہے۔ گویا اصل قوت اور طاقت اس قرآن میں ہے جو اللہ کا کلام ہے!

### در بغل داری کتاب زندہ

قرآن حکیم کی قوت تحریر کے حوالے سے ایک آخری بات مجھے مزید عرض کرنی ہے۔ دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مجرمات عطا ہوئے ان میں اہم ترین عصا کا مجرمه تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اسے زمین پر ڈالتے تھے تو وہ ایک بڑے سانپ یا اٹھدھے کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ قرآن حکیم میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لئے جادوگروں کو جمع کیا تو انہوں نے بھی تقریباً وہی کچھ کر کے دکھادیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن جاتا تھا۔ جادوگروں نے جب

اپنی رسیاں اور چھڑیاں پھینکیں تو وہ بھی سانپ بن کر جنبش کرنے لگیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وقتی طور پر خوف طاری ہو گیا اور تھوڑی دیر کے لئے یہ حقیقت ان کے ذہن سے محو ہو گئی کہ ان کی اپنی بغل میں اللہ کا عطا کردہ ایک عظیم مجرم یعنی عصما موجود تھا۔ اس کی وقت تفسیر کا خیال ان کے ذہن سے نکل گیا۔ تاہم یہ ایک عارضی سی کیفیت تھی جو جادوگروں کے باندھے ہوئے سحر کے زیر اثر ان پر طاری ہوئی۔

اس واقعے سے میرا ذہن اس بات کی طرف منتقل ہوا کہ ہمارے آج کل کے جدید دانشور اور منکرین حدیث بڑے شدومد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی روایت موجود ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ بات عصمت انبیاء کے منافی ہے کہ نبی پر جادو کا کچھ اثر واقع ہو، لذایہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے بے بنیاد استدلال قائم کر کے وہ صحیح بخاری ہی نہیں پورے ذخیرہ احادیث پر سے عوام الناس کا اعتقاد ختم کرنے کے درپے ہیں۔ یہ وہ ہتھکنڈے ہیں جو آج کل منکرین حدیث کی جانب سے استعمال ہو رہے ہیں۔ میں اس کا جواب قرآن سے دیتا ہوں۔ قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا۔ دوسرے لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ چھڑیاں اور رسیاں دوڑتے ہوئے سانپوں ہی کی صورت میں نظر آئیں۔ یہی تو جادو کا اثر تھا، اسی کا نام نظر بندی ہے۔ سورہ طہ میں صراحت موجود ہے :

﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خَيْفَةً مُّؤْسِيًّا﴾ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ آپ اس صورت حال کو اپنے اوپر طاری کر کے سوچئے۔ دل میں خیال آیا ہو گا کہ یہی تو میرے پاس اصل ہتھیار تھا، ان جادوگروں نے بھی وہی کچھ کر کے دکھادیا جو میں عصا کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ اب تو لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ یہ بات آئے گی کہ یہ بڑا جادوگر ہے اور وہ چھوٹے جادوگر۔ چنانچہ ان پر خوف طاری ہوا۔ ﴿فُلَّا لَا تَحْفَ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَغْلَى﴾ ہم نے فرمایا اے موسیٰ، مت

ڈرو، یقیناً تم ہی سر بلند ہو گے، کامیابی تمارے قدم چوئے گی۔ ﴿وَأَلِقْ مَا فِي  
يَمِينِكَ تَلْفُّفَ مَا صَنَعْتَ﴾ اور ذرا زیمن پر ڈال تو سی اس چیز کو جو تمارے دا ہے  
ہاتھ میں ہے، یہ عصا ان سب کو نکل جائے گا اور یہ سوانگ جوانسوں نے رچایا ہے  
اس کی قلمی کھل جائے گی۔ یہی اسلوب اقبال نے بھی مستعار لیا ہے اور اپنے اس  
شعر میں یہی پیغام امت کو پہنچایا ہے ۔

### اے چو شبنم بر زمیں افتخار در بغل داری کتاب زندہ!

کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بغل میں عصا موجود تھا لیکن جادو گروں کی رسمیوں اور  
چھڑپوں سے وقتی طور پر جو ایک منظر سامنے آیا اس سے ان پر خوف طاری ہو گیا، آج  
بعینہ وہی حال امت مسلمہ کا ہے کہ اس کے پاس قرآن مجید کی شکل میں سب سے بڑا  
”ایٹم برم“ موجود ہے، لیکن انہیں شعور ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ عظیم مجہرہ ان کی بغل  
میں موجود ہے، جس کی قوت تحریر کے سامنے کوئی شے نہیں ٹھہر سکتی! حقیقت یہ ہے  
کہ بحیثیت مسلمان ہمارے تمام مسائل کا حل اگر کسی ایک شے میں ہے تو وہ اللہ کی  
کتاب ہے۔ آپ حضرات یہ حدیث متعدد مرتبہ سن چکے ہوں گے جس کے راوی  
حضرت عمر بن الخطاب ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا : ((إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهِذَا الْكِتَابِ  
آفُوَاماً وَيَضْعِفُ بِهِ أخْرِيَنَ)) (صحیح مسلم) کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت بہت سی  
اقوام کو بلندی عطا کرے گا اور اس کے ترک کرنے کی پاداش میں بہت سی قوموں کو  
زوال سے دوچار کرے گا۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ نبی اسرائیل میں ان الفاظ میں  
وارد ہوئی : ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ﴾ اور سورہ الطارق میں بایں الفاظ  
بیان ہوئی : ﴿إِنَّهُ لَقَوْنٌ فَضْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَبْلٍ﴾ کہ یہ تو قول فیصل ہے، فیصلہ کن  
کلام ہے، کوئی شاعرانہ تک بندی نہیں ہے۔ یہ ہے درحقیقت قرآن کی تاثیر اور  
قوت تحریر ۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم پر اعتماد نہیں کرتے۔  
قرآن مجید کی عظمت سے اگر ہم حقیقتاً واقف ہو جائیں اور اس کے اندر جو قوت تحریر

پہنچا ہے اس کا ہمیں کسی درجے میں اندازہ ہو جائے تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں۔

### جہاد بالقرآن — وقت کی اہم ضرورت

اسی حوالے سے ذہن منتقل ہوا کہ آج سے سات آٹھ سال قبل میں نے جہاد بالقرآن کے موضوع پر دو تقریریں کی تھیں۔ سورۃ الفرقان میں نبی اکرم ﷺ کو جہاد بالقرآن کا حکم بایں الفاظ میں دیا گیا ہے : ﴿فَلَا تُطِعُ الْكُفَّارِينَ وَجَاهِهِمْ بِهِ حِجَادًا كَبِيرًا﴾ کہ اے نبی، ان کافروں کی باتوں پر آپ توجہ نہ دیجئے، ان کی بیرونی کا خیال دل میں نہ لایے اور ان کے ساتھ جہاد کرتے رہئے اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد! — اپنی توانائیاں اور اپنی قوتیں اس قرآن کے افشاء اور اس کے ابلاغ پر لگادیجئے، کھپا دیجئے، لگے رہئے اسی کام میں۔ یہی درحقیقت آپ کی طاقت کا اصل راز ہے، آپ کی کامیابی کی اصل صفات یہی قرآن مجید ہے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَدُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾۔

جہاد بالقرآن ہی کے موضوع پر بعد میں، میں نے ایک اور تقریر کی تھی اور اس میں جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ معین کئے تھے۔ اگر آپ اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایک محاذ تو جدید مددانہ نظریات کا ہے۔ اس زہر کا توڑا اسی قرآن مجید میں ہے۔ پھر ہمارے عوام کی ایک عظیم اکثریت مشرکانہ اوہماں اور عقائد کا شکار ہے۔ اس کا توڑا بھی یہی قرآن ہے۔ بلکہ اس گمراہی کا توڑا تو اس میں زیادہ نمایاں اور جلی انداز میں ہے۔ اس لئے کہ جب قرآن نازل ہوا تو وہاں یہی گمراہی سب سے زیادہ تھی، لہذا اس کی نفی اور تردید بھی سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ ہوئی۔ باقی جہاں تک جدید باطل نظریات اور مددانہ افکار و خیالات کا تعلق ہے تو ظاہریات ہے کہ اس کے توڑے کے لئے تو قرآن حکیم میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی، کچھ گمراہی میں اتر کر حکمت و معرفت کے موئی اور ہیرے نکالنے ہوں گے۔ لیکن

قدمیں جاہلیت کا توڑ تواس میں گویا بالکل سطح پر (On the Surface) موجود ہے۔

علان ہے : ﴿ وَاعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ حَمِيْنَعَا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾۔ جتنا اس قرآن کے قریب آئیں گے اتنی ہی باہمی ہم آہنگی ہو گی۔ یوں بھی سوچا جائے کہ انسان چونکہ جیوان ناطق ہے اور عقل رکھنے والا جیوان ہے، لذما انسانوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی اگر ہو گی تو باہم اتحاد بھی ہو گا ورنہ آپ اتحاد کے موضوع پر وعظ کرتے رہے، اتحاد کے لیکھ رہے ہیں اس پر مضامین لکھ کر چھاپتے رہے، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ باہم ذہنی اور فکری ہم آہنگی اگر پیدا ہو گی تو با معنی اور پائیدار اتحاد جنم لے گا اور اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مل جل کر مضبوطی سے تھام لیا جائے۔

ما ہمه خاک و دل آگاہ اوست  
اعتصامش کن کہ جبل اللہ اوست

ہمارا ایک مرض اور بھی ہے، اور وہ ہے بے یقین۔ یعنی باطل نظریات کا بھی اگر چڑھن پر تسلط نہیں ہے، کوئی گراہ کن اواہم بھی نہیں ہیں، لیکن جسے یقین کہتے ہیں وہ شے موجود نہیں ہے، اور یقین کی پوچھی اگر پاس نہ ہو تو عمل کا کیا سوال؟ — قرآن حکیم میں کچھ لوگوں کا قول نقل ہوا ہے : ﴿ إِنَّ نَظَرَنَا لِأَطْنَاؤ مَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴾ کہ اے محمد! جو کچھ تم کہہ رہے ہو گلتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، بات وزنی معلوم ہوتی ہے لیکن یقین نہیں آتا، اس پر دل نہیں ٹھکتا! — اور ظاہریات ہے کہ عمل تو یقین کے تابع ہے، یقین بد لے گا تو عمل بد لے گا۔ بقول اقبال ۔

یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے  
وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے نغفوری  
جان لختے کہ اس یقین کا سرچشمہ اور منبع بھی یہی قرآن ہے۔ اور یہی ہے کہ جو

علج یہی قرآن حکیم ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر میں نے ”جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ“ کے موضوع پر اپنے خطابات میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ میری یہ دونوں تقریبیں اب کتابی صورت میں شائع ہوتی ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے فریضہ رسالت کی ادائیگی اور غلبہ و اقامت دین کے مشن کے لئے جوبے مثال جدوجہد کی اسے دو عنوانات کے تحت تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ آپ نے مسلسل بارہ برس کے میں قرآن کے ساتھ جہاد کیا اور پھر دس برس مدینے میں یہ جہاد تکوار کے ساتھ ہوا! — یہ دو ہی تو جہاد ہیں جو محمد عربی ﷺ کے جہادِ زندگانی میں سب سے نمایاں ہیں۔ ایک کام عنوان جہاد بالقرآن ہے جو بارہ یا تیرہ برس کے میں ہوا کہ جس میں شمشیر قرآنی کے سوا اور کوئی دوسری شمشیر نبی اکرم ﷺ اور مسلمانوں کے ہاتھ میں نظر نہیں آتی اور دوسرا جہاد بالسیف ہے جس کا آغاز بھرت کے بعد ہوا اور جو آپ کی حیاتِ طیبہ کے آخری سانس تک جاری رہا۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ جہاد بالسیف کے لئے جو طاقت در کار ہوتی ہے، فدا میں کی جو جمعیت اور سرفروشوں کی جو جماعت در کار ہوتی ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ — یہ سرفروش جہاد بالقرآن کے نتیجے میں فراہم ہوں گے۔ قرآن حکیم اگر انہیں مسخر کر لے اور ان کے اندر سراحت کر جائے تو یہی لوگ ہیں جو باطل کے مقابلے میں بنیان مرصوص ثابت ہوں گے اور باطل نظام کو والٹ کر رکھ دیں گے۔

چوں بجان در رفت جان دیگر شود

جان چو دیگر شد جان دیگر شود

اس اعتبار سے جہاد بالقرآن گویا جہاد بالسیف سے اہم تر ہے۔ اس لئے کہ پہلی منزل اہم تر ہوتی ہے۔ پہلی منزل موجود ہو گی تو اس کے اوپر دوسری منزل کی تغیر ممکن ہو گی۔ جہاد بالقرآن ہو گا تو جہاد بالسیف کا امکان ہو گا!

## بھارت کے خلاف ہمارا اصل ہتھیار — شمشیر قرآنی

اس ضمن میں ایک بات میں مزید کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے داخلی طور پر تو پانچ محاوز گنوادیئے جن کے لئے قرآن ہمارا سب سے بڑا اور موثر ہتھیار ہے، خارجی اعتبار سے ہمارے لئے اہم ترین مسئلہ بھارت کا ہے۔ آج سے دو یا تین سال قبل میں نے مرکزی انجمن کے سالانہ اجلاس عام ہی میں اس ایشور پر ایک تقریب کی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ بھارت کے مقابلے میں بھی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار قرآن حکیم ہے۔ اس لئے کہ فکر اور نظریے کے میدان میں بھارت کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہندو قوم کے پاس اپنا کوئی جاندار نظریہ نہیں ہے، نہ مذہب کے میدان میں اور نہ فلسفے کے میدان میں۔ مذہب کے نام پر ان کے ہاں جو ایک تحریک چل رہی ہے وہ محض بعض سیاسی مقاصد کے لئے چلائی گئی ہے، ورنہ دراصل ہندو اسلام صرف ایک کلچر ہے، کچھ رسومات ہیں اور کچھ ایسی سماجی تقریبات ہیں جن کے حوالے سے وہ کچھ جشن منایتے ہیں، باقی کوئی شے ان کے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پورے طور پر مغرب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، فلسفہ و فکر بھی انہوں نے مغرب سے مستعار لیا ہے اور ان کے تہذیب و تمدن پر بھی مغرب کا رنگ غالب ہے۔ چنانچہ ان کا نظام حکومت ہو یا تصویر قانون سارے کاسار اور جوں کا توں مغرب سے درآمد شدہ ہے۔ یہی سبب تھا کہ متعدد ہندوستان میں دنیاوی اعتبار سے ہندو ہم سے آگے نکل گیا تھا۔ اس لئے کہ اس کے باوجود کہ مسلمانوں میں بست سے لوگ مغربی روکے اندر بہے گئے تھے لیکن ان میں ایک بڑا موثر طبقہ ایسا بھی تھا جن کے ذہنوں میں مغربی تہذیب کے خلاف ایک رد عمل پروان چڑھا اور انہوں نے اس تہذیب کو ذہنا اور عملاً قبول نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری قوتیں منقسم ہو گئیں۔ علماء دین ہندوؤٹ گئے کہ نہ انگریزی پڑھیں گے نہ انگریزی تہذیب اختیار کریں گے۔ انہوں نے انگریز، انگریزی تعلیم اور انگریزی تہذیب سب سے لا تھقی اور بیزاری کا اعلان کیا۔ گویا مکمل بائیکاٹ کی صورت بن گئی۔ ہندو کے لئے ظاہر بات ہے کہ ایسی کوئی رکاوٹ

موجود نہیں تھی۔ اس کا کوئی تمدن تھا نہ تہذیب، نہ ان کے ہاں اپنے کوئی نظریات تھے نہ افکار، لہذا انہوں نے بلا جبک اور بلا توقف انگریز کی تہذیب، اس کے تمدن، اس کی زبان، ہرشے کو اختیار کر لیا۔ انہیں اس کا اضافی فائدہ یہ ہوا کہ انہیں انگریز کا قرب بھی حاصل ہو گیا۔ ظاہریات ہے کہ حکمرانوں کا قرب حاصل کرنے کا اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں کہ آپ انہی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیں۔ جبکہ مسلمانوں کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔

برحال یہ تو ایک ماضی کا معاملہ تھا، مجھے اصلاً مستقبل کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بھیت ملک پاکستان کا اصل مقابلہ بھارت کے ساتھ ہے، بھارت وہ ملک ہے جس کے ساتھ ہماری پیدائشی دشمنی ہے۔ مادی قوت کے اعتبار سے اگرچہ ہم بھارت سے بہت پچھے ہیں لیکن واقعی ہے کہ اس کے خلاف نظریاتی طور پر ہمارے پاس بہت بڑی قوت موجود ہے۔ اس فکر کو اگر ہم پھیلا سکیں تو اس شمشیر قرآنی سے ہم دشمن کو گھائل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے فضل و کرم کی ہے کہ ہمارے اور ہندوستانی قوم کے درمیان زبان کی کوئی بھی چوڑی خلیج حائل نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم مغرب کی طرف چلے جائیں، ایران یا عرب ممالک میں جا کر اپنی بات پہنچانا چاہیں تو وہاں اردو زبان ابلاغ کا ذریعہ نہیں بنتی۔ لیکن یہ جو ایک بہت بڑا ملک ہے، پوری نوع انسانی کی ۱/۵ تعداد جہاں آباد ہے، آج بھی اس ملک کے کونے کونے میں اردو زبان سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ چاہے وہ تامل ناؤ کا علاقہ ہو، خواہ ملیالم کا علاقہ ہو اور خواہ بنگال کا خطہ ہو، ہر جگہ اردو سمجھنے والے موجود ہیں۔ اس بات کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی مظاہر میں سے شارکرتا ہوں جن کی بناء پر میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑی عظیم پاک و ہند سے اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص خدمت لینی ہے، اور مستقبل کی جو بھی اس کی مخصوصہ بندی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اہم مقام اور اہم رول اس خطے کا ضرور ہے کہ یہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اسی خطے سے اس عظیم قرآنی تحریک کا آغاز ہوا جو تین سو برس

پرانی تحریک ہے، کوئی آج کی تحریک نہیں ہے۔ اس کا آغاز توشاد ولی اللہ دہلوی<sup>(ر)</sup> کے فارسی ترجمے اور ان کی "الفوز الکبیر" سے ہوا تھا۔ پھر ان کے چاروں بیٹوں (لشیش) کے ترجم قرآن اور قصیروں سے یہ تحریک آگئے بڑھی۔ اُس وقت سے جو سلسلہ شروع ہوا تو درحقیقت یہی ہے کہ جو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ آج ہم بھی اس تحریک میں بقدر ہمت اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں اور خدمت قرآنی کے اس کام میں اپنی بساط کے مطابق شریک عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول فرمائے۔ برکیف اردو زبان کو ذریعہ ابلاغ بنانا کہ اگر قرآن کے فکر و فلسفہ اور قرآن کی حکمت ہدایت کو ہندوستان میں بخوبی والے لوگوں میں بھرپور طریقے سے پیش کیا جاسکے تو اس سے بڑا اور کوئی ہتھیار نہیں! — شاہ ولی اللہ<sup>(ر)</sup> نے "تفہیمات الہینہ" میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے اوپری ذات کے ہندوؤں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی۔ یہ ایک پیشین گوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حق میں تمام شواہد موجود ہیں۔

بدقتی سے ہندوستان کے ساتھ آج تک ہماری تو می جگ جس نوعیت کی رہی ہے اس میں مادی نقطہ نظر اور جذباتیت پرندی کو زیادہ دخل رہا ہے، چنانچہ اس کے نتیجے میں ہم خود ہندو قوم اور قرآن کے درمیان اپنے وجود سے ایک آڑ اور حاجب بن گئے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی ہدایت کی طرف رجوع کیسے کریں جبکہ وہ ایک دشمن قوم کی کتاب ہے۔ یہ وجہ سے Barrier ہے جس کی وجہ سے نوع انسانی کی ایک بہت بڑی تعداد قرآن مجید سے محروم ہے۔ اگر ہم کسی طریقے سے اس Barrier کو ختم کر کے قرآن کے پیغام اور اس میں مضمون ہدایت کو بیک وقت وقت، اعلیٰ ترین علمی سطح پر بھی اور عوام الناس کی سطح پر بھی پیش کر سکیں تو واقعہ یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی قوتِ تحریکی ہے۔ بدقتی یہ ہے کہ اس کی طرف سے ہم غالب ہیں اور مغربی انکار و نظریات اور تہذیب و تمدن کی ظاہری چمک دمک نے خود ہماری آنکھوں کو خیرہ کر رکھا ہے۔ جیسے عارضی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی ڈالی ہوئی ان

رسیوں اور چھڑیوں کو سانپوں کی شکل میں دیکھ کر ڈر گئے تھے، آج ہم بھی اہل مغرب کی ڈالی ہوئی ان رسیوں اور چھڑیوں کے بنے ہوئے سانپوں سے مرعوب اور خوف زدہ ہیں۔ یہ رسیاں چاہئے افکار اور نظریات کی ہوں، ”خواہ تندیب و تمدن کی ہوں کی اور خواہ سائنسی ترقی کے روپ میں ہمیں مرعوب کر رہی ہوں،“ سب انسانی ذہن کی تراشیدہ ہیں۔ اس سے کہیں بڑھ کر وہ قوتِ تنجیر ہے جو قرآنِ حکیم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ الحمد للہ ہماری یہ تحریک قرآنی جو انجمن خدام القرآن کے نام سے بر عمل ہے، اسی قرآن کے پیغام اور اس کی ہدایت کو عام کرنے کے لئے کوشش ہے۔ اور فی الاصل، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، میری یہ تقریرِ اللہ کی جناب میں ہدیہ تشكیر پیش کرنے کے لئے ہے کہ اس انجمن کو قائم ہوئے میں برس ہو گئے، اس دوران جو کام اب تک ہم سے ہوا اسی کے فضل سے ہوا۔ تو جہاں ہمیں اپنے قلب کی گمراہیوں سے اللہ کا شکر بجالانا چاہئے وہاں ہمیں اس کام کی اہمیت کا صحیح صحیح شعور بھی ہونا چاہئے اور اس حوالے سے قرآن مجید کی قوتِ تنجیر پر اعتماد اور توکل میں مزید پختگی آنی چاہئے کہ اصل شے یہ ہے، ”اس پر محنت کرو،“ اسے عام کرنے اور پھیلانے کے لئے جدوجہد کرو ﴿وَفِي ذلِكَ فَلِيَتَّافِسِ الْمُتَّنَافِسُونَ﴾ چاہئے کہ اربابِ ہمت و عزیمت اپنی عزیمتوں اور ہمتوں کے اظہار کے لئے اس میدان کا اختیاب کریں اور اپنی سعی و جد کا مرکزو محو ر قرآنِ حکیم کو بناویں۔

### چند عملی نکات

اب میں وہ چند عملی باتیں آپ سے عرض کروں گا جو میں نے انجمن کے سالانہ اجلاس میں بھی کہی تھیں — پہلی بات یہ کہ اس انجمن میں آپ کی شمولیت (Participation) عملی بڑھنی چاہئے۔ بطور خاص آپ سے یہ بات اس لئے کہ رہا ہوں کہ جیسا کہ میں نے دورانِ تقریر بھی عرض کیا، بہر حال اب میں تو آخرت کی دلپیغمبر کھڑا ہوں۔ محمد اللہ میں برس میں نے اس ادارے کو چلا�ا ہے اور یہ سب کچھ

اُسی کے فضل و کرم سے ہوا۔ اس میں عافیت یہ بھی رہی ہے کہ صدر موسس ہونے کے ناطے اس ادارے میں مجھے خصوصی اختیارات حاصل تھے، میرے پاس ویٹو کا حق تھا اور اب بھی ہے۔ لہذا کسی بڑے ہنگامے کے کھڑا ہونے یا بحران کے پیدا ہونے کا یہاں کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن آئندہ اس کا امکان یقیناً ہو گا، اس لئے کہ میرے بغیر کسی صدر کو ویٹو پا اور حاصل نہیں ہو گی۔ آئندہ کاظمام طے شدہ دستور کے مطابق چلے گا۔ لہذا جن حضرات کو بھی اس کام اور اس قرآنی فکر سے دلچسپی ہے اور جو چاہتے ہیں کہ پچھلے بیس برس میں جو کام ہوا ہے وہ کہیں غلط رخ پر نہ پڑ جائے یا نسلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے تو انہیں چاہتے ہیں کہ اس انجمن کے ساتھ اپنی والبُنگی کو فعال بنائیں۔ اپنے اوقات کا کچھ حصہ اس کے لئے ضرور نکالیں اور یہ خیال ذہن میں نہ لا۔ میں کہ یہ کام تو خود بخود چل رہا ہے، ہماری اس میں کیا ضرورت ہے! — جن حضرات کے ذہنوں میں بھی ایسا کوئی خیال تھا انہیں اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہتے ہیں اور اس کام سے دلچسپی رکھنے والے تمام حضرات کو چاہتے ہیں کہ اس کام میں عملی شمولیت کو پڑھانے کی طرف توجہ دیں۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کام کے لئے قبول فرمائے!

دوسری بات — اور یہ بات مجھے خاص طور پر انجمن کے پرانے وابستگان سے کہنی ہے کہ ان میں وہ بھی ہیں کہ جو میرے دروسِ قرآن اور تقاریر کی مجلسیں پہلی صفوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں لیکن مجال ہے کہ انہوں نے تنظیمِ اسلامی یا تحریکِ خلافت کی جانب ایک قدم بھی آگے بڑھایا ہو۔ ان حضرات کو اپنے طرزِ عمل پر نظر ہانی کرنی چاہتے اور سوچنا چاہتے کہ یہ سارا کام کیا محض کسی مشغله کے طور پر ہو رہا ہے؟ — یہ ہرگز کوئی Cult نہیں ہے! یہ کوئی ہندوؤں کے طریقے پر رشی منی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے!! یہ ایک اہم دینی کام ہے، یہ ایک انقلابی مشن ہے۔ اور کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں انقلاب کے بیچ موجود ہوں لیکن وہ چھلیں پھولیں نہیں، برگ وبارہ نہ لائیں تو وہ کام اپنی معنویت کھو دے گا۔ محض پڑھنے پڑھانے تک خود کو

محود رکھنا اور اس کے عملی تقاضوں سے گریز کرنا دینی اعتبار نفع بخش نہیں ہے۔ الحمد للہ کہ میری زندگی میں صرف پڑھنا پڑھانا نہیں رہا بلکہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے آگے قدم بڑھایا اور اسی اعتبار سے اس کام میں معنویت برقرار رہی۔ تو جو لوگ بھی اس کام میں ذہنی دلچسپی رکھتے ہیں انہیں چاہئے کہ آگے بڑھیں، تنظیم اور تحریک کی طرف عمل آپیش قدی کریں اور اس میں شمولیت اختیار کریں۔

تیسرا بات جو میں خاص طور پر نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دعوت رجوع الی القرآن کے ایک سالہ کورس کی میرے نزدیک خصوصی اہمیت ہے۔ میں ارکین انجمن اور خصوصی طور پر اس آبادی کے لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کورس میں شمولیت کرنی چاہئے۔ ہمارا یہ کورس چار چار ماہ کے دو سسٹر زپر مشتمل ہے۔ چنانچہ جو حضرات پورا سال فارغ نہ کر سکتے ہوں وہ چار میںنے تو ضرور نکال لیں اور پہلا سسٹر کر لیں، دوسرا سسٹر اگر کچھ وققے کے بعد بھی ہو سکے تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بہر حال اس کے لئے ایک سال کا ارادہ ضرور کر لیں — ہم میں سے ہر شخص کو، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو سوچنا چاہئے کہ ہمیں اللہ کے حضور اس بات کی جواب دی کرنا ہو گی کہ ہم نے سب کچھ پڑھا، لیکن اتنی عربی نہ سیکھی کہ اس کے کلام کو براہ راست سمجھ سکتے۔ اس کوتاہی کا ہمارے پاس کیا جواز ہے؟ ہم نے اگریزی اتنی پڑھ لی کہ اگریزوں کو پڑھ سکتے ہیں، مختلف فنون حاصل کر لئے، سائنسی علوم میں بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن نہیں پڑھی تو عربی نہیں پڑھی۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا کیا جواب ہو گا کہ تم نے میرے کلام کی کیا قدر کی؟ خود میری کیا قدر کی؟؟ قرآن حکیم میں مشرکین کے بارے میں فرمایا گیا ہے : ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کہ اس کی قدر کرنی چاہئے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہئے کہ ہم کیسی ان الفاظ کا مصدقہ نہ ٹھہریں۔ چنانچہ اس ضمن میں جو بھی کی رہ گئی ہے ہمیں اس کی تلافی کرنی چاہئے۔ اگر کسی کے والدین کی کوتاہی ہو اور وہ اللہ

کے ہاں پہنچ گئے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تلافی وہ اب بھی کر سکتا ہے۔ آپ اب اس کام کے لئے وقت فارغ کریں اور اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اے اللہ، میں اپنے والدین کی کوتاہی کی اب تلافی کر رہا ہوں، میرے والدین کو بخش دے، انہیں معاف فرمادے۔ اے اللہ، میں اب اس کے لئے وقت نکال رہا ہوں، میری اس چیزوں جمد کو اور میرے اس وقت کو جو میں صرف کر رہا ہوں میرے والدین کی طرف سے کفارے کے طور پر قبول کر لے! — میں بکرا رواعاتہ توجہ دلار ہاں کہ یہ کام کرنے کا ہے، اس میں دیر نہ کیجئے، تاخیر نہ کیجئے!!

اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ۰۰

---

صدرِ مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن اور بانی تنظیم اسلامی

# ڈاکٹر رارا احمد

کے علمی و فکری اور دعویٰ و تحریک کا وصولہ کا پنجموڑ  
۲۸ صفحات پر مشتمل ایک اہم علمی دستاویز جس میں عالی خطوط کی نشاندہی ہی موجود ہے۔

# دعوہ رجوعِ الی القرآن

کامنظر و پس منظر

ضرور طالعہ کیجئے۔ دوسروں تک پہنچا یتے

---

مرکزی انجمن حُدُمُ القرآن لاهور

کے قیام کا مقصد

طبع ایمان — اور — سرحرشیہ لقین

قرآن حکیم  
کے علم و حکمت کی

ویسیع پیانے — اور — اعلیٰ علمی سطح

پر تشویر و اشاعت ہے

تاریخ امت مسلم کے فہیم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک بنا ہو جائے  
اور اس طرح

اسلام کی نشأة ثانية — اور — غلبہ دین حق کے دور ثانی

کی راہ ہموار ہو سکے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ